

Islaam

Jubbande seeda ko faati e Islaam,hono no dur ardi e
ALQuraana e Sunna Annabiyanke



نبذة موجزة عن الإسلام (مشتمة على الأدلة) فلائي (فولاني)



بيان الإسلام
Bayan AL-Islam



ح) جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، 1445 هـ

باللغات ، جمعية خدمة المحتوى الإسلامي
الإسلام - نبذة موجزة عن الإسلام (مشملة على الأدلة) - فلاتي.
/ جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات - ط.1 - الرياض ، 1445 هـ

132 ص ؛ 14 × 21 سم

ردمك: 978-603-8412-74-9

1445 / 14730

Partners in Implementation



Content
Association



Rowad
Translation



Rabwah
Association



IslamHouse
com

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

Tel: +966 50 244 7000

info@islamiccontent.org

Riyadh 13245- 2836

www.islamhouse.com

Islaam

**Jubbande seeda ko faati e Islaam,hono no dur ardi e
ALQuraana e Sunna Annabiyanke**

Deftere hummunde soomnde anndingol jumangol ko faati e Islaam, honde feññina ko buri himmude e asli hembo e tinndinooje e njoon ndam hembo,tawa ko e tuuknaade e Alquraana e sunna annabiyanke,nde huccinaa ko e denndaangal hellifaabe juulbe e be ngonaa juulbe tawa ko demde mum en,e kala yonto e nokku, won dude e seertude ngonkaaji e alhaaluuji.

**Ko nde deftere soomnde dallillaaji ummoraade e
Alquraana e sunna Annabiyanke o.**

1. Islaam ko bataake Alla faade e denndaanga yimbe e jinneeji fof,ko kamba woni nelal Aliyankeewal genawal,timmingal nele Alliyankooje:

Islaam ko nelal Alla faade e Aade en fof e jinneeji, Alla teddufo o wi*i:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]

{Min nuliraani ma si wonah e denndaangal aade en fof,haa ngonaa beltnoowo e jertinoowo,Kono ko furi heewde e yimbe hee ngndah.} [Saba*i 28]

Alla daali:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾ [الأعراف: 158]

{wii eehey yimbe miin komi nelaado e mon tigi,onon fof} [Aaraaf: 158]

Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]

{Eehey mon yimbe Nelaado addanii mon goongo ummorde e Joom mon, ndeen noon ngondine ko dum furi wonde jam mon, si on njeddii ngannde na woodani Alla ko woni e kammuuji e leydi, Alla woniino O seeraani wonde gannda ñeeñudo.} [Annisaa*i: 170]

Islaam woni nelal Aliyankeewal luttungal, ko kangal woni timmorgal nule Joomiraado, Alla Toowdo wi*i:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ وَعَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]

{Muhammadu wonaani baabiraado hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde.} [Al Ahjaab : 40]

2- Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine Alla wonande yimbe fof:

Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine wonande yimbe fof, yamiroore adiinde ummornde e Alquraana tedduda ko konngol Alla toowdo O:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾ [البقرة:

[21

{Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takdo on, e takdo adiibe mon, ngam kulon simoore} [Bagara : 21]

Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ [النساء: 1]

{Eehey mon yimbe kulee Joom mon Oon takdo mon ummaade e fittaandu wooturu,O tagi ummaade e hendu dewel e gorel O saakti ummorde e mayru worbe heewbe e rewbe} [Annisaa:1]

Ummaade e Ibnu Umar yo weluyo Alla won e mum en wonde Nelaado Alla yo jam e kisal won e mum yeewtinii yimbe be ñande fathu Makka, o wi*i:

{Eehey mon yimbe Alla ittani on wasaade majjiyankoobe e mawnakiranaade baabiraabe mum en yimbe ko worbe diido:diggudo teddudo to Alla,e canndalin do kiitaado koydo to Alla,yimbe ko bibbe Aadama,te Alla tagirii Aadama ko leydi,Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات: 13]

{Eehey mon yimbe mi tagii mon yimbe e jinneeji mi wadii on kille e ley/yi ngam nganndandiron,pellet buri teddude e

mon to Alla ko burdo hulde Alla, pellet Alla ko ganndo tigi ko kumpatiido..} [Hujuraati: 13]

Ko Tirmidhi fillii mo

A tawatah e jamirooje ALQuraano tedduo o,wolla jamirooje Nelaado tedduo O sariya keertinaado yimbe e hinnde sabu ndaarde guri leñol mum en.

3. Islaam woni nelal Alliyankeewal garngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiɓe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe.

Islaam woni nelal Alliyankeewal gar ngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiiɓe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe,Alla daali:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالذِّكْرِ مِن بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ﴾ [النساء: 163]

{Min mbahyiima faade e ma hono no min mbahyi- rino faade e Nuuhu e Annabaabe caggal mum, min mbahyiima faade e Ibraahiima e Ismaa*iila e Yaaquuba e Asbaati e Iisa e Ayyuuba e Yuunus e Haaruuna e Suleyma Min totti Daawuuda Jabuur.} [Annisaa: 163]

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaado Muhammadu yo jam e kisal won e mum ko oon woni diine mbo Alla sariyani Annabaabe adiiɓe O wasiyiibe mbo,Alla toowdo o O daaali:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13]

{O sariyaniima on diine, ko wasayii ko Nuuhu e ko O wahyii ko faade e maa e ko O wasayii ko Ibraahiima e Muusa e iisa, ko dum woni ndarnee diine wotee ceerte heen,mawnii e sirkube he ko noddataabe ko e mum, Alla na

suboo mbo welaa refti O feewna faade e Makko oon tuuboowo.} [Assuuraa: 13]

O diine mbo Alla wahyii faade e Nulaado men Muhammadu-yo jam e kisal won e makko-kombo goondindo defte Alliyankooje adiidde hono Tawreeta e Injiila ko adii dende wayletee Alla toowdo O daali:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: 31]

{Komin mbahyii ko faade e Ma ummaraade e deftere nde, ko goonga goongindo ko adinoondeko tellaade e defte, pellet Alla ko kumpatiido ko ji*oowo} [Faatiri 31]

4. Annabaabe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji mabbe ko ceertudi.

Annabaabe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto, sariyaaji mabbe ko ceertudi Alla toowdo O daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

وَمِنْهَا جَاءَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

{Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini ko adinoonde tellaade e defte, honde hiilndi e mum, ñaawir hakkunde mabbe ko Alla tellini ko wota a rew e belaafe mabbe gaa ko ari ko e Ma e goonga, gooto fof Min mbaadanii mbo sariya e laawol, si Alla welanooma O waɗay on lenol gootol, kono tan ko haa O jariboo on ndaɗandire e golle moyye, ko faade e Alla woni ruttorde Mon onon fof, O habra mon ko wonnoɗon luurude ko e mum.} [Al Maa*ida: 48]

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: Ko Miin buri haandude yimbe be e Iisa biy Mariyama e nder aduna e laakara, Annabaabe ko musibbe Neeniraabe ko

seertube kono diine mum en ko goota.Ko Bukhaari habri mbo 3443.

5. Islaam noddata ko-ko hono no Annabaabe:Nuuhu,Ibraahiima, Muusa,Suleymaan,Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe-faade gumre wonde Alla ko takdo guurnoowo baroowo,jeydo jeyal ko O jiiloowo fiyakuuji ko Kamko woni newiido jurmotoodo O.

Islaam noddata ko-ko hono no Annabaabe:Nuuhu,Ibraahiima,Muusa, Suleymaan,Dawuda Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe-faade e gumre won de Alla ko takdo guurnoowo baroowo,jeydo jeyal ko O jiloowo fiyakuuji ko Kamko woni newiido jurmotoodo O daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]

{Eehey mon yimbe ciftere dokke Alla e dow mon,mbele na woodi takdo mo wonah Alla arsikinoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto don. } [Faatiri: 3]

Alla daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: 31]

{ Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nande e jiide e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi,o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji, maabe mbii ko Alla mate on hulatah } [yuuni 31]

Alla daali:

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: 64]

{ Ko hombo fuddata tagoore nde refti O ruttande ko hombo arsakinta mon ummorde e kammu e leydi mbela na woodi dewateedo gon dudo e Alla wii ngaddee daliilu mon si on laatiima goongube.} [Annamli : 64]

Denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en be neliraa ko noddude faade e dewal Alla kanko tan Alla toowdo O daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

{ wollahi Min imminii e kala mofte Nulaado, wonde ndewee Alla, ngodditodon bewnaydi din.Hino e mabbe on Mo Alla feewni, hino e mabbe kadi on mo majjere nden joggi e mun.Yiilee ka leydi, ndaaron ko honno battane fennoobe ben wa'unoo. } [Annahli : 36]

Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]

{ Min nulaani ko adima hay Nulaado gooto si wonah Min mbahyii e Makko won de pellet deweteedo alah si wonah Miin wadde ndewee kam. } [Al Anbiyaa*i 25]

Alla habri gaa e Nuuhu yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 59]

{ Eehey mon yimbe am ndewe Alla on ngalah Alla tanah makko Miin mbido hulani on lepte ñalngu manngu..} [AL Aaraaf 59]

Ibraahiima gido O -yo jam e kisal won e mum- hono no Alla habriiri nih, O maaki:

﴿وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾

[العنكبوت: 16]

{ kadi Ibraahiima, nde o wi'annoo yimbe makko ben:"ndewee Alla,kulon Mo; ko dum bure moy'yannde on,si woni hidon anndi.} [Al ankabuut:16]

Saalihi -mo jam e kisal woni e mum- maaki hono no Alla habriri e mum:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف: 73]

{ O wi*i onon yimbe am ndewee Alla on ngalah deweteedo siwona kamko arii e mon ko laabti ummaade e Joom mon dum ko ngeelooa njarla ko haawniinde wonan de mon aceeba hoba dura e leydi Alla he wotee memneebe bonannde lepte muusde nannga mon.} [Al Aaraaf: 73]

Su*ybu-mo jam e kisal woni e mum-maaki hono no Alla habriri e mum:

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

{ Eey mon yimbe am on ngalah deweteedo mbo wonah kamko arii e mon ko laabtii ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustanee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal dendi feewnaa ko duum bure moy'an de on si on laatiima goondin be.} [Al Aaraaf: 85]

Nde Alla adii haaldude e Muusa - yo jam e kisal won e mum- Alla ceniido O daa:

﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

لِذِكْرِي ﴿١٤﴾﴾ [طه: 13-14]

{ Mi subiiimo Ma jenta ko wahyete daa ko (13) Ko Miin tigi woni Alla dewettdo alah si wonah Kam wadde darnu juulde ngam siftorde Mi. (14) } [Taaha 13-14]

Alla daali hombo habra gaa e Muusa yo O his pellet kanko o mooliima e Alla O maaki:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾

[غافر: 27]

{Pellet miin mi mooliima oom Am e Joom mon e kala mawnikiniido mo goongidinaani ñande hasboore.} [Gaafir: 27]

Alla habri gaa e Masiih yo O his O Daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ [آل عمران: 51]

{Pellet, ko Allah woni Joomam e Joommon.ndewee Mo. Ko dum woni laawol peewngol ngol} [Aali Imraan: 51]

Alla habri kadi gaa e Masiih yo O his O Daali:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾﴾ [المائدة: 72]

{Eehey mon Banii Israa*iil ndewee Alla Joom Am e Joom mon pellet kala denndindo Mbo e goddum Alla harmina aljanna e dow makko jaajnde mum ko jayngol tooñoobe ndañatah walladiibe..} [Al Maa*ida:72]

Accu boom hay Tawreet e Injiil arii e majje ko in tentina rewde Alla kamko tan, joli e Sifru Attasniya konngol Muusa yo kisal won e mum:(Nan Aan Israa*iil Joomiraawo deweedo men ko joomiraawo gooto)Arii kadi e Injiil Murqus tentinde Tawhiid, nde Masiihu maaki:(Ko adii e wasiyaaji hee woni: Nan aan Israa*iil Joomiraawo men

dewateedo ko gooto).Alla O holliri wonde denndaangal Annabaabe neliraa ko himme njano, ko oon woni noddude faade e Tawhiid Alla toowdo On Daali:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ [النحل: 36]

{ wollahi Min imminii e kala mofte Nulaado,won de ne ndewee Alla, ngoditodon bewnaydi din.Hino e mabbe on Mo Alla feewni,hino e mabbe kadi on mo majjere nden joggi e mun} [Annahli 36]

Toowdo On daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddada kon ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodanibe gedal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wolle batte ummrde e ganndal si on wonii goongube} [Al Ahqaaf :4]

Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi·iAnndaama won de ne jeddi sirkoobe be e sirku mabbe fawaaki e hay daliilu gooto, kono be tuuknii ko sikkeeji penaale e miijooji contudi, e hakkilaaji bondi, na hollu ma bon de rewindaande alhaaliiji mabbe e gannde e golle mabbe, e ndaarde gasnube nguurndam e rewde diin mbela nafiibe(diin deweteedi ko wonah Alla) huunde e aduna ma e laakara)?Taysiir Al Kariim Al mannaan :779.

6. Alla Mbo senaare woodani toowdo On Kay woni tagdo kaandudo rewede O waasa rewede e hay gooto:

Alla woni kaandudo e rewede kank tan, goddo haanaani rewede e makko, Alla daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿21﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿22﴾﴾ [البقرة: 21-22]

{Eehey mon yimbe ndewee Joom mon takdo on,takdo adiiɓe mon, ngam kulon (21) O baɗando on leydi ndi ko mbertudi O wadi kammu on mahdi O tellini ndiyam ummorde ka kammu O yaltini heen besnooje ngam wona arsuka mon wadde wotee mbaɗanee Alla goreebe tawa hoɗon nganndi (22) } [Al Baqara: 21-22]

Oon takdo men O tagi girle gadiide men O wadani en leydi ko ndaɗɗudi O jippini e men ndiyam ummorde ka kammu O yaltinani en heen besnooje, ko kamko tan haani reweede kam gooto Alla toowɗo O daali:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِمَّنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿3﴾﴾ [فاطر: 3]

{Eehey mon yimbe ciftere dokke Alla e dow mon,mbele na woodi takdo mo wonah Alla arsikinoowo on ummorde e kammu e leydi, dewateedo alah si wonah Alla ko honno yiiltorto don.} [Faatiri: 3]

Oon tagoowo On O arsaqina, kamko tan haandi e reweede, Alla toowɗo O daali:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿102﴾﴾ [الأنعام: 102]

{Ko Oon Alla woni Joom mon deweteedo alah e goongo si wonah Kamko, Ko Kamko woni takdo kala huunde wadde ndewee Mbo Kamko de ko O defiido kala huunde.} [Al Anaam: 102]

Kala ko rewa ko wonah Alla dum haandaani e reweede, sabu dum alah ko foti e gabbel jarra e nder kammuuji e ka leydi ndi, o renndaani e Alla hay huunde, o wonah balladiijo, wadde hono on noddirte maa wadee ndendadiijo e Alla, Alla toowɗo O daali:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾ [سبأ: 22]

{Wii noddee been be ngaay'idon ko alдах e Alla be ngalah fotde gabbel jarra nder kammuuji e nder leydi be ngalah hedi gedal be e ngalah heen kadi balloowo..} [Assaba*i: 22]

Ko Alla jom senaare toowdo O woni takdo tagaadi din O wootni di ummaade e baasal,gootgol diin na tinndina gootgol makko Mbo e toppitaade e njeymum e Alliyankaawal Makko,O daali:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَلَوَاتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينُونَ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾﴾ [الروم: 20-27]

{Ina jeya kaawniide mum kam takde mon e leyi refti ngontudon yimbe saaktatoobe (21) Ina jeyaa e kaawniide Makko nde O tagani mon e pittaali mon suddibe ngam ndeey'on e mum en O wadi hakkunde mon gilli e yurmeende pellet wonii e duum teskuyaajiji wonan de miijotoobe (22) Ina jeyaa e kaawniide Makko tagde kammuuji e leydi e seertude demde mon e mbaadiiji mon pellet wonii e duum teskuyaajii wonan de binnde de.(23) Ina jeyaa e kaawniide Makko daanagol mon jemma e ñalawma e dabbude mon e bure Makko Ina e duum teskuyaaji wonan de nanoobe (24) Ina jeyaa e kaawisaaji Makko nde O hollata mon maje wona kulol e

damaaw e tellinde ndiyam ummorde e kammu O wuurtanira dam leydi caggal maayde ndi pellet wonii e duum teskuyaaji wonan de hakkilbe (25) Ina jeyaa e kaawniidi Makko nde kammu e leydi darato e yamiroore Makko, refti si O noddii mon noddaadu ummorde e leydi ngonon e yaltooobe (26) Woodanii mbo wonbe e kammuuji e leydi kambe fof hobe njankananii MboKo Kanko fudfata tagoorende refti O ruttande koko newi e Makko}[Arrvum: 20-27]

Namruude yeddi gootgol Alla, Ibraahiima mo jam e kisal woni hono no Alla habriri:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرِهِمْ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ لِإِبرِهِمْ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبرِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 258]

{ Ibraahiima wi*i pellet Alla na addira naange nge funnaange addir nge hirnaange,keefeero o foala Alla feewnatah tooñoobe.} [Albaqara 258]

Ko hono noon kadi Ibraahiima dalnitori e yimbe mum won de ko Alla feewni mbo ñammini mbo yarni mbo si o ñawii safra mbo, ko Kamko warata mbo wuurna mbo, o wi*i no Alla habriri e mum:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٨﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ [الشعراء: 81-78]

{Oon takdo mi, ko Kamko feewnata mi (78) Ko Kamko ñamminatami O yarnami (80) Somi ñawii ko Kamko saftratami Oon baroowo mi refti O wuurtina mi (81) }[Assu*raa:78-81]

Alla daali Hombo habra gaa e Muusa yo o his wonde O tottii Fir*awna hujjo o wi*i:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50]

{Oon tottudo kala huunde tagoore mayre refti o feewi.} [Taaha :50]

Alla eelti denndaangal ko woni e kammuuji e leydi sabu neddo, O fiildi neddo o dokke makko, ngam o rewa Alla o waasa yeddude Mbo, Alla toowdo wi*i:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿٢٠﴾﴾ [لقمان: 20]

{Mbele on *njiaani ko Alla eeltani on ko woni e kammuuji e leydi O juurti e mon dokke mum peeñde e birniide ina e yimbe he yeddandirteebe e fii Alla ko aldah e ganndal wonah peewal wonah deftere jalbunde.} [Luqmaan: 20]

Hono no Alla eeltirani yimbe kala woni e nder kammuuji e leydi,Alla taganii-mbo O heblani mbo ko o hatajini e mum: nande,naniki jiidde e bernde nde janngirta ganndal nafatngal mbo,ngal tinndina mbo keeta mum Takdo mbo O,Alla toowdo daali:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: 78]

{Ko Kamko woni jaltinddo mon e deedi yummiraa be mon tawi on ngandah hay huunde O wadani on nande e jiidde e berde ngam njetton Mbo.} [Annahli: 78]

Alla ceniido O, tagii denndaangal binnde de, O tagi Aaade O heblani mbo kala o hatajini e mum gila e terde haa e cemmbe refti O okki mbo kala ko wallata mbo e ummmaade e dewal Alla e wuurnude leydi, refti O eeltani mbo kala ko woni e nder kammuuji e leydi.

Alla hujjinori takgol makko dee tagooje tagaade mawde wonde ko Kamko wonii Joomiraawo haandudo e reweede Alla ceniido O daali:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾﴾ [يونس: 31]

{Ko hombo arsakinta on ummaade e kammu e leydi ko hombo jeyi nande e jiide e hombo yaltinta ko wuuri ummaade e ko maayi,o yaltina ko maayi ummaade wuuri O yiila fiyakuuji,mabe wii ko Alla mati on hulatah. } [yuunisi 31]

Goonga ceniido O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي

السَّمَوَاتِ أَفْتَوْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ [الأحقاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata kon ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he, wolla na woodaniibe gefal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii nde wollo batte ummorde e ganndal si on wonii goongube.} [Al Ahqaaf:4]

Alla daali:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاللَّيْلِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ

الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ [لقمان: 10-11]

{O tagi kammuuji ko aldah caldi di nji*aton O werlii e leydi hee pende haa ndi waasa dimmbude mon,O saakiti e mayri kala kuulel duugawel, O tellini ummorde e kammu ndiyam min pudniri dam kala noonoojii teddundi dum ko tagoore Alla kolle kam ko wobbe be tagi, accu tooñoobe hebe e majjere laabtunde.} [Alluqmaan: 10-11]

Goonga ceniido O daali:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا

يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْتَبِرُونَ ﴿٣٧﴾ [الطور: 35-37]

{Mbele be taga ko aldah ndiga wolla ko kambe woni tagbe be (35) Wolla be tak kammuuji e leydi? accu boom be njananaaka(36) Mbela hobe njogii moftirdi Joome O wolla ko kambe woni foolbe be (37) } [Attuur: 35-37]

Asseekh Saadi wi*i:dum ko dallinoraade e dow mabbe huunde nde be mbaawatah si wonah jebbilanaade goongo ma be njalta hakkillantaagal e diine .Tafsiir Ibnu Saadii: 816.

7. Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he,ko nji*aten ko eko en nji*ataako,kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum,Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom:

Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he,ko njiatenko*eko en nji*ataako,kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum,Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16]

{Wii hombo woni Joom kammuuji e leydi, wii ko Alla wii mbela on njogitoto mbo wonah Alla heedbe be ngalanah ko*e mabbe nafoore maa lor, Wii mbele bumdo e ji*oowo na pota wolla nimre e annoore na pota wolla be mbaɗan Alla renndadiibe takbe hono tagoore Makko duum ko tagaa ko na nanndi e dow mabbe Wii Ko Alla woni takdo kala huunde ko Kamko woni gooto pooloowo.}[Arraadu: 16]

Alla toowdo On daali:

﴿...وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8]

{Hombo taga ko on nganndah} [Annahli: 8]

Alla tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom O daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: 4]

{Ko kamko tagi kammuuji e leydi e nder balde jeegom refti foti dow Danki Makko he,Hombo anndi ko jolata e leydi e ko yaltata e mayri e ko tellatoo ummaade kammu e ko y'awata e

mamma Hombo wondi e mon kala nokku do ngonfon,Alla na yi*a ko golloton ko} [Al Hadiid: 4]

Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: 38]

{wollahi Min tagii kammuuji di e leydi ndi e ko woni e hakkunde majji nder balde jeegom,te tampere memaani Min heen} [Qaaf :38]

8. Alla Mbo senaare woodani toowdo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagoore Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e dewe Mum he.

Alla Mbo senaare woodani toowdo O, ko Kamko woni jom laamu O alah denndadiijo e takgol Mum he wolla e laamu mum he wolla e jiilgol Mum he, Alla toowdo O daali:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنْزَلَهُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]

{Maakanbe mbela be yi*i kobe noddata ko ko wonah Alla kollee Kam kobe tagi e leydi he,wolla na woodaniibe gedal e nder kammuuji he, addenee Kam deftere ko adii dum woll batte ummrde e ganndal si on wonii goongube} [Al Ahqaaf :4]

Asseekh Assaadii (yo Alla hinno mo) wi:i:(Ey: Wii bee do renndadinbe Alla e sanamji e goreebe be ngalah nafaore wolla lor be ngalah maayde, nguurndam wolla ummital ñalngu darnga, wiibe : labbinanaabe ronkere sanamuuji mum en, di kaan daani hay huunde e reweede, (Kollee kam kobe tagi e leydi he wolla boom mbel na woodaniibe gedal e kammuuji he) mele be tagii huunde e buurti kammuuji wolla e leydi? Mbele be tagii ceene wolla be ndoknii caatli? Mbela be caaktii kulle wolla be pudni ledde ? Mbele ina e mum en balludo no huunde e deen gede tagira ? hay huunde e duum be wadaani, wadde dum ko daliil hakkilleyanke wellet tigi won de rewde ko wonah Alla ko meere.Refti O jantii waasde daliil eggaado O daali: (Addenee Kam deftere adiinde ndee do) deftere

noddoore e sirku (Wolla batte ummrde e ganndal) donaaḍe e Nulaabe jamirooje ḍuum. Ina jeyaa ko anndaa won de kobe ronkuḍe daliil ummaade e Nulaabe cemmbinoowo kobe noddata ko, ko ḍum waḍi min pelliti won de denndaangal Nulaabe noddi ko e wootadinde Joom mabbe e riiwde sirku ko ḍum bure mawnude ko egaa ko e mabbe. Tafsiir Ibnu Saadii: 779. Alla jom senaare O woni jeyḍo laamu O alah denndadiija e laamum makko he, Alla toowḍo O daali:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ وَتُعْزِزُ مَنْ نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]

{Wii: Aan Alla Aan woni jeyḍo laamu, haḍa totta laamu mbo mbelaḍa, haḍa teeta laamu e mbo mbelaḍa, teddina mbo mbelaḍa koynaa mbo mbelaḍa, ko e Junngo Ma moyyere woni, pellet ko A kattandḍo kala huuunde} [Aali Imraan: 26]

Alla toowḍo daali hombo labbina laamu timmungu na woodani Mbo ñalngu darngo:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]

{ñalngu mbo be njaltata hay huunde e mabbe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O} [Gaafir: 16]

Alla Mbo senaare woodani toowḍo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagu Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e rewde Mbo:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]

{Wii: Denndaangal jettḍooje ngoodaii Alla Mbo jogitaaki biḍḍo te woodanaani Mbo denndadiija e laamu makko he, O alah keeda e koyeere mawnin Mbo kala mawningol.. } [Al Israa*i: 111]

Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾﴾ [الفرقان: 2]

{Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki biɗɗo, O alah denndadiijo e laamu mum he, O tagi kala huunde O hoddari nde kala koddirgol..} [Al Furqaan:2]

Ko kamko woni jeyɗo, mbo wonaa Mbo fof ko jeyaado, ko kamko woni takɗo mbo wonaa mbo woo ko tagaado, ko Kamko yiilata fiyakuuji mbo alhaali mum wa*i nih fof na haani reweede, rewde goɗɗo goo ko ustaare hakkille e sirku bonnoowo aduna e laakara, Alla toowɗo O daali:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ [البقرة: 135]

{yahuud en mbi*ijuubebe:ngonee yahuud en peewon nasaara kamen ne juulbebe ngone nasaara peewon, wi*acce ngonon e diine Ibraahiima ooñingol kalo mehre kala faade e majjere ngol, O wonaana e sirkoobe..} [Al Baqara 135]

Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ

اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾﴾ [النساء: 125]

{Alah burɗo moy'yude diine wonannde oon jebbilido e yeesa Alla tawa hombo moy'y'i o rewi e diine Ibraahiima ooñiido gah gah mehre e majjere, Alla jaggarii Ibraahiima Sehil..} [Annisaa*i: 125]

Alla goongo laabtani won de kala dewɗo ko wonah laawol Ibahiima mo jam e kisal woni e mum, o ɗaaynii hoore makko, Alla daali:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ

فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة: 130]

{Alaa duurnotoodo (calotoodo)laawol Ibrahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi nganndee Min cubiima mo e aduna kamko o jeyaa ko e moy'yube to laakara.} [Al Baqara : 130]

9. Alla ceniido O, O jibinaani O jibinaaka O alah paso wolla nandadiijo.

Alla ceniido O,O jibinaani,O jibinaaka,O alah paso wolla nandadiijo Alla ceniido daali:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا

﴿أَحَدًا﴾﴾ [الإخلاص: 1-4]

{Wii Kank Alla ko O gooto. (1) Alla ko paandorteedo (2) O jibinaani O jibinaaka (3) woodanaani Mbo hay pasa gooto (4)}. [Al Ikhlaas:1-4]

Alla daali:

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ

سَمِيًّا ﴿١٥﴾﴾ [مریم: 65]

{Jeydo kammuuji e leydi e ko woni hakkunde majji wadde ndewee Mbo muññita e dewal makko he mbela hada anndi tokoro wonande Mbo.} [Maryam: 65]

Mbo goongo woni fiyaaku mum daali:

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: 11]

{Takdo kammuuji e leydi O wafani on ummaade e ko* e mon suddiibe e ummorde e neemaraadi di nooneji O hebbini mon e nder mum O alah nanndadiijo ko Kamko woni nanoowo ji*oowo..} [Assuura: 11]

10. Alla ceniido toowdo O, O tellataako e nder huunde, O banndintaako e nder huunde e tagoore mum he:

Alla ceniido toowdo O tellataako e huunde O banndintaako e huunde e tagoore Makko, O wondatah e huunde habe ngona gootum, sabu ko Alla woni takdo , ko wonah Alla fof

koka tagaa, ko Kamko woni keddatoofdo mbo wonah Mbo fof koka gasata, kala huunde ko Kamko wonii laamdo e Jeydo, O tellataako e huunde e tagoore mum he, huunde kadi e tagoore mum he tellataa ko e jaati mum he kamko ceniido O? Alla mbo senaare woodani buri mawnude kala huunde, buri teddude, Alla toowdo O daali hombo yedda been aayiiibe wonde Alla telliima e Masiihu habe ngonti gootum:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [المائدة: 17]

{wollahi yeddi been wiibe pellet ko Alla woni Masiihu Ibnu Maryama, wii hombo waawi e Alla huunde si O faalaama halkude Masiihu Ibnu Maryama e Neene makko e been wonbe nder leydi kambe fof? woodanii Alla laamu kammuuji e leydi e ko woni e hakkunde majji, hombo taga ko welaa Alla ko O kattandoo kala huunde.} [AL Maa*ida 17]

Alla daali:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤُوا فَوَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾ [البقرة: 115-117]

{Woodanii Alla funnaange e hirnaange, kala do kuccitdon ko toon woni Yeesa Alla pellet Alla ko O jaacdo ganndo tigi (115) be mbihi Alla jogatiima bidoo senaare woodanii Mbo accu ko woodi ko woni na woodani Mbo ko woni e kammuuji e leydi kanji hodi njankinani Mbo (116) puddiido takde kammuji e leydi si O ñaawii huunde O wi*ata tan ko won nde wona. (117)} [Al Baqaratu 115-117]

Alla daali:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ
وَتَنْسُقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا ۝٩٢ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
عَدًّا ۝٩٤ وَكُلُّهُمْ عِندَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝٩٥﴾ [مريم: 88-95]

{be wi*i Jurmatoodo O jogitiima bibdfo (88) Ko goongo on kaali konngol mawnungol (89) Kammuuji diin na desa seekaade heen leydi ndi fetta kaaje di pukoo jirbugol (90) Sabu nodditaadebe won de ALLA Jurmatoodo na jogii bidfo (91) Haananaani Jurmatoodo O nde jogotoo bidfo. (91) Alah ko woni e kammuuji si wonah ara e na woni maccudo Jurmatoodo O (93) O fiilti limoore mum en O limibe kalo limgol (94) Kambe fof mabe ngar e makko gooto gooto (95)}. [Maryama : 88-95]

Alla daali:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝٢٥٥﴾ [البقرة: 255]

{ Alla, alaa deweteedoo si wanaa kamko,Wuurdo Niibudo. Nonre nanngataa Mo,wanaa kadi doyngol.ko Kamko Jeyi huunde ko woni ka kammuuli e huunde ko woni ka leydi.Ko hommbo woni on tefnotoodo ka Makko si wanaa e yamiroore Makko? hombo anndi ko woni yeeso mabbe,e ko woni baawo mabbe. Be hubindotaako huunde e ganndal Makko ngal si wanaa ko O Muuyi.Jullere Makko nden no yaaji buri kammuuli din e danki ndin. Reenugol di aaninaa Mo. Ko Kamko woni Toowudo Mawdo On..} [Al Baqara: 255]

Mbofiyaaku mum woni nih,fiyaaku tagoore Makko wonri nih,hono O waawrata tellaade e gooto habe ngonta

gootum?wollo O jogitoo bid'oo?Walla O waddadam dewateedo god'oo?.

11. Alla ceniido toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, ko dum wadi O nuli Nulaabe O jippini defte.

Alla Toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, sabu yurmeende mum jiyaabe Makko O nuli e mabbe Nulaabe O telli e mum en defte, haa O yaltinabe nibe keefaraagu faade annoore tawhiid e peewal Alla Toowdo O wi*i:

﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ

اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 9]

{ Ko Kamko tellinta e maccudo Makko aayeeje laabtude ngam O yaltinabe nibe faade e annoore pellet Alla ko endotoowdo jurmotoowdo.} [Al Hadiid: 9]

Alla daali:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]

{ Men Nuliraani ma si wanaa Yurmeende wonande winndire nden} [Al Anbiyaa:107]

Alla yamiri Annabi Makko yo habru jiyaabe wonde ko kanko woni jaafatoo'oo jurmotoowdo Alla toowdo O daali:

﴿*تَبَيَّنَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]

{Habru jiyaabe Am be ko Miin tigi woni jaafatoo'oo jurmotoowdo} [Al Hijri 49]

E newuya makko e yurmeende makko,ko kamko woni kuncoowo lor O tellina jam e dow jiyaabe Makko,Toowdo O daali:

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]

{Siko lor nanngii Ma alah kuncoowo mbo si wonah Kanko, si O faalaama e mah jam hay gooto waawah ruttude bural

Makko ngal homba totta ngal mbo welaa e jiyaabe Makko ko Kamko woni jaafaatooɗo jurmotooɗo.} [Yuunus: 107]

12. Ko Alla woni Joomiraado jurmotooɗo, ko kamko googto haasbata tagoojede Ñalngu darngo saango nde O umminibe e genaale mum en, gooto fof yobe ko golli ko mojji, te hombo goondini , woodanii mbo neema duumiido, oon golludo ko boni woodaniimbo lepte njane ka laakara.

Ko Alla woni Joomiraawo jurmotooɗo, ko kamko tan haasbata tagoojede Ñande darnga nde O umminibe e genaale mum en,O yoba gooto kala ko golli ko,mo golli ko golle mojje te hombo gumi woodanii mbo neema duumiida,mo yeddi golli ko boni noon woodanii mbo lepte njane Ñande darngo,na jeyaa e timmude nuundal ceniido toowdo O e yurmeende Makko wonan de tagoore nde,ko O laatini ko aduna woni galle golle O wadi galle dɓimmo to hasbeede e njobdi ngonata,mo golli ko laba dana baraaaje,mo golli ko boni o bewi heba lepte bewre mum,dum na woodi e pittaali na njeddi dɓum,Alla noon darnii dallilaaji buy na tinndina won de ummital ko goongo mbo alah jeddi,Alla daali:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ

الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُنِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ [فصلت: 39]

{Ina jeyaa aayeeje mum hada yi*a leydi ndi na hoyi, si O tellinii e mayri ndiyam ndi fuufa puɗi, wadde Oon guurnitɗo ndi, Ko guurnitoowo maaybe pellet kamko ko kattando kala huunde} [Fussilat :39]

Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْرَظْتَ وَرَبَّتْ وَأُنبِتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج: 5]

{Eehey mon yimbe si on cikkatiima ummital pellet ko Minen tagi mon e leydi refti Min mbadi mon tobbere refti Min mbadi mon heddere refti Min mbadi mon husere timmunde tagoore e nde timmaani tagoore ngam Min laabtiinana on,Min ñiibna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappado refti Min njaltina mon suko refti njottadono satteende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateebe e nguurndam burdam jaasde haa o waasa anndude caggal duum hay huunde,haɗa yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa puɗi ndi fudna teeltungel labangel} [Al Hajju: 5]

Alla jantii e o aaya dallillaaji tati jaaduɗi e hakkille wonde ummital na woodi:

1- Alla tagri nedɗo e gadanol ko leydi, sabu ko o tagri dum ko e leydi hollii wonde hombo waawi mbo ruttude e nguurndam nde o wonnoo e leydi.

2- Oon takɗo ummaade e tobbere nedɗo bannduyanke, ko kattandɗo ruttude mbo faade e nguurndam caggal maayde.

3- Oon guurtinirdɗo leydi ndi tobo caggal dendi maayi hombo hattani wuurnude yimbe caggal maaygol mum en, ina e o aaya daliil njana e woodeede kaawis alquraana ,

hono o aaya - te mbo wonah juutdo- dallillaaji tati jaaduɗi e hakkille e o fiyaaku.

Alla daali:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

{ñande Min cowi kammu o hono no defte cowrate,Min nduttat tagoore nde hono no Min puɗɗirinoo takdende nih,ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe} [Al Anbiyaa:104]

Alla daali:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [78-79]

﴿أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 79-78]

{O fiyani Min yeru o yejjiti tageede mum, o wi*i hombo wuurtinta yi*e dappuɗe? (78) Wii wuurnatade ko taknoodode laawol gadanol Kamko ko O gannda tigi kala huunde. } [Yaasiin: 79]

Alla daali:

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [27-32]

﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّلَهَا﴾ [28-31]

﴿وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [29-30]

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا﴾ [31-32]

{ Mbele ko onon furi sattu takde wollo ko kammu mbo O mahi on (27) O bamti mbildi hembo O fotndi mbo (28) O nibbadini jemma makko o O yaltini ñalawma makko jalbuɗo on. (29) Caggal duum O werti leydi ndi (30) O yaltini e hendi ndiyam mayri e durngol mum (31) O tabatini tule de (32) }. [Annaaji*aati:27-32.]

Alla laabtanii won de takgol aade buraani sattude e takde kammu e leydi e ko woni e hakkunde majji,kattando takde kammuuji e leydi horataaka ruttude aade laawol dimmol.

13. Alla ceniido O takrii Aadama e leydi O wadi besngumum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bange asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla.

Alla ceniido O tagrii Aada leydi O wadi genyol mum ina beydoo caggal makko, kamdɓe fof poti to bange asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla. Alla toowɗo O daali:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: 13]

{ Eehey mon yimɓe pellet Min tagii mon ummaade e gorel e dewel Min mbaɗi mon ley'yi e kille ngam nganndandiron, pellet buri teddude e mon ko burɗo hulde Alla pellet Alla ko ganda tigi ko O kompatiido..} (Al Hujuraati : 13)

Alla daali:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا

تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ

اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ [فاطر: 11]

{ Ko Alla tagiri on e leydi,refiti e tobbere(maniiyu),refiti O wadi on nooneji.Dewel saawataa,ngel jibintah kadi si wanaa e ganddal Makko.guurnaado wuurnetaake duytetaake kadi e nguurndam makko, si wanaa ina winnda e deftere.Pellet,dum ko newanii dum Alla.} [Faatiri: 11]

Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلَتَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ [غافر: 67]

{ Ko kamko tagi on ummaade e leydi refti O wadi on tobbere maniyyu refti O wadi on heddere refti o O yaltini on e deedi yummiraabe mon ko on sukaadibe haa kellifedon cembinon caggal duum ngonton nayebe,ina e mon sankatoobe ko adii,e haa njottodon e lajal kappangal mbelee joo kakkilon. } [Gaafiri: 67]

Alla Toowdo O daali hombo laabtina wonde tagii Masih e yamiroore won,hono no O tagiri Aadama e leydi e yamiroore won,Toowdo O daali:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]

{ Pellet, sifa Iisaa ka Alla, ko wano Aadama; O tagirii mo e leydi, refti O daalani mo: "Laato!" o laatii..} [Aali Imraan: 59]

Adinoomo janteede tonngoode (2) wonde Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum hollarii wonde yimbe fof poti alah kobe burdi si wonah hulde Alla..

14. Kala jibinaado jibintee ko e neesu.

Kala jibinaado jibintee ko e neesu Alla toowdo daali:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Tabatin yeeso ma e diine mbo wooñaaki faade e majjere, takgol Alla mbo O takri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagoore Alla , ko duum woni diine peewdo loy kono ko buri heewde e yimbe ngandah } [Arruum: 30]

Haniifa noon ko diine Annabi Ibraahiima yo jam kisal won e dow mum:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123]

{ Refti min mbahyii faade e Maa ya a rew diine Ibraahiima ooniido gaa kala majjere O jeyanooko e sirkooɓe.} [Annahli: 123]

Be maaki kadi:Alah jibinteedo si wonah o jibinee e neesu baabiraabe makko mbada dum yahuud wolla nasraani maa majuusi, hono no dammuwol jibanirta timmungol mbele hodon tina e hedi gurmangol ?.Refti Abuu Hurayrata wi*i yo weluya Alla won e dow mum:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30]

{ Tagoore Alla nde O takri yimbe e dow mum, alah bayloowo tagoore Alla , ko duum woni diine peewdo koy kono ko buri heewde e yimbe ngandah } [Arruum : 30]

Sahiih Bukhaari 4775.Be maaki kadi:Ko noon Joom am yamarii kam nde ngandinat mi on ko majjudon, ko O anndini mi hannde e o ñalwma : Kala ko okkumi maccudo Am ko ka dagii, pellet Mi tagii jiyaabe Am foocciibe kambe fof, seytaani arii e mum en yaltaniibe diine mum en, mbo harmini e mum en ko daknan Mi be, mbo yamariibe yobe cirkid am e goddo be ko mi addanaaniibe hay hujja goot e duum.Ko Muslim fillii mbo 2865.

15. Hay gooto e yimbe he jibidinteedo e goopol, ma o rona goopol goddo:

Hay gooto jibidintaake e goopol ma o rona goopol makko ngol tanaa makko, Alla habrii en wonde Adama mo jam e kisal ngoni e mum, nde O luutndii yamiroore Alliyankoore,O naami kamko e jom suudu makko e lekki he, O nimsi o tuubi,o torii Alla yaafaawuya, Alla lonngani mbo nde o haalata konngudi laabdi, o haali di, Alla jabani mbo tuubaabuya O daali:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
أهبطوا بعضكم لبعض عدوؤلكم في الأرض مستقرّ ومتنع إلى حين ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ
رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتيتكم
مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [البقرة: 35-38]

{ Min ndaali Aan Aadama hoddu e jom suudu ma aljanna ñaamon heen ko yaaji ko dakmi to weladon wotee badee kii lekki njeyedon e tooñoobe (35) Seytaane fergatibe o yaltanibe tobe ngonnoo e mum, Min daali telle, yogo e mon wona añbe wobbe be, woodanii on ñiibirde e leydi he e dakmitorde haa e yonto (36) Aadama hebii ummaade e Joomi makko konngi O jabani mbo tuubuubuya, ko Kamko woni jaboowo cay tuubuubuya Jurmotoodo (37) Min ndaali tellee onon fof si peewal arii ummorde e Amen kala dewdo peewalam kulol wonatah e dow mum en be wonah sunotoobe (38)} [Albaqara : 35-38]

Nde Alla jabanno Aadama tuubuubuya, o seerti e bakkaat, refti geñol makko ronatah goopol makko ngol sabu ngol ittriima tuupgol, woni asli ko hay gooto roondotaako goopol goddo goo, Alla Toowdo O daali:

﴿قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَاِزْرَهُ وِزْرًا أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [الأنعام:

[164

{ Alah ko wonki faggitto si wonah ko e dow makki fawatee hay gooto roondotaako bakkat janano, refti ko to Am woni ruttorde mon Mi habra on ko luutatna don e nder mum } [Al An*aam: 164]

Alla daali:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]

{ Mo feewii, haray pellet, ko hoore-makko o feewani mo majii kadi, haray pellet, ko o majji kon yantay e hoore-makko. Wonkii ronndotaako bone wonkki gotki. Men wonaali leptoobe, haa Men immina Nulaado. } [Al Israa: 15]

Alla daali:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: 18]

{ fittaandu roondotaaka bakkaat fittaandu goo, si teddaḍo noddi walleede e donngal makko, o roondantaake hay huunde e mum, hay si o wonno badiiḍo mbo, njeertita ko huloobe Joo mum en e mbirniindi be ndarni juulde, kala laabḍo laabani ko hoore mum, ko ka Alla woni battane.} [Faatir: 18]

16. Woni faandaare tagde aade en ko haa be ndewa; Alla tan:

Woni faandaare tageede aade ene jinneeji ko haa be ndewa Alla kamkon tan Alla daali:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

{ Mi tagaani yimbe e jinneeji si wonah yobe ndewam } [Ajaariyaati : 56]

17. Islaam teddinii aade -rewbe e worbe- O defanii mo denndaangal hakkeoji makko O wadi mbo naamnitteedo denndaangal ko o subii e golle e ko o firlitii, O roondi mbo naamniteede kala golle lerooje hoore makko maa wobbe.

Islaam teddinii aade- worbe e rewbe- Alla toowdo O tagi aade ngam o wona lomto Makko ka leydi O daali:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً...﴾ [البقرة: 30]

{ Nde Jooma wi*i malaykaaji di ko Mi badooowo lomto e leydi he } [Al Baqara: 30]

Ngol teddingol ngol Alla teddini aade na renndini aade en fof, Alla daali:

﴿* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ

عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾ [الإسراء: 70]

{ WOLLAHI Min teddinii biibe Adama Min roondiibe ka jeeri e ka maayo Min arsaqiniibe laabdi Min burniibe ko heewi e ko Min tagi ko kala burnugol.} [Al Israa*i: 70]

Alla daali:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ [التين: 4]

{ Min tagii neddo e sifa burdo fooccaade } [Attiin :4]

.Alla hadii neddo o nde o wonata cukkuudo koydo wonande mbo o rewata on, wolla cukkateedo ma doftateedo mbo wonah Alla, Alla daali:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اُنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرُوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّانَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 165-166]

[البقرة: 165-166]

{ Ina e yimbe he jaggiroowo ko wonah Alla goreebe be yidabe hono no Alla yidirite,been gumbe buri sattude gilli wonande Alla,si been tooñbe nji*ii ndebe yi*ata lepte won de cemmbe fof woodani ko Alla ko noon kadi lepte Alla ko cattude,siftor tuma nde hisnii been rewanooobe e bone been rewatnoobe,be nji*i lepte gilli jokkandiral tay'i hakkunde mabbe } [Al Baqara: 165-166]

Alla toowdo daali hombo laabtina alhaali rewoobe e reweteebe e meere ñalngu darngo:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنَحْنُ صَدَدْتِكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَانْدَادًا وَأَسْرُوا الْقَدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْتَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: 32-33]

{ Mawnakininoobe mbi*ani lohnanoobe mbele ko minen paddii on gaa e peewal caggal nde ngal ari e mon,accu onon kay on ngonno bonbe (32) Lohnanoobe be mbii mawninkinoobe be accu dum ko hodo jemma e ñalawma tuma nde njamiratna don min nde min njeddata Alla min cosana Mbo goreejo, be cuudi mimsa nde be njii lepte nde, Min mbañi tonngi e daade heefareebe, mbela on njobete si wonah ko golludon. (33) } [Sabaa: 32-33]

.Ina jeyaa etimmugol nuun dal Alla ceniido toowdo ñande darnga nde O roondata noddooobe e imaamoobe majjinoobe be bakkatuuji mumen e bakkatuuji be be majjinta be ko aldah e ganndal, Alla toowdo O daali:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: 25]

{ Ngam be ndoondoo bakkatuuji mumen e bakkatuuji been be majjini ko aldah e ganndal, ee bonii kobe ngacci ko...} [Annahli: 25]

Alla defaniima aade denndaangal hakkeji makko nder aduna e laakara, ko buri mawnude e hakkeji di Islaam defanii aade mbo bannginidi wonande aade en ko: Hakke Alla e dow yimbe e hakke yimbe faade e Alla.Ummaade e Mu*aaj yo weluya Alla won e mum,o wii: Nulaado togganiino kam O maaki: (Aan Mu*aaj) mbiimi A nootaama e malal Ma, refti O maaki yeru mum laabi tati:(mbele ana anndi hakke Alla e dow jiyaabe?) Mbiimi alah,O maaki (hakke Alla e dow jiyaabe ko ndebe ndewata Mbo be mbaasa renndinde Mbo e hay huunde)refti O yahi waktu O maaki:(Aan Mu*aaj) Mbiimi A nootaama e malal,refti O maaki:(mbele ana anndi hakke jiyaabe e Alla,sibe gollii duum O waasabe leptude?)Sahiih Bukhaari 6840.

Islaam defanii aade hakke diine makko goongo e besngu makko e jawdi makko e nguru makko.Be maaki kadi:Pellet Alla harmanii e mon y'iiy'ameeje mon e jawdeele mon e guri mon hono hurum ñdalawma mon o e lewru mon ndu e nder leydi mon ndi.Sahiih Bukhaari 6501.

Nulaado yo jam e kisal won e mum bannganii e aadi mawdo e hajju baynagol mbo ko buri teemedere ujunere Sahaabi tawano,O fillii oo maana O teentani mbo nder ñalawma layya (NAHRI)e hajju baynagol.Islaam fawii aade denndaangal ko o subii e golle e pirlitale mum, Alla daali:

﴿وَكُلِّإِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

مَنْشُورًا﴾[الإسراء: 13]

{ Kala neddo Min ñiifnani mbo talkuru makko e daande makko, Min njaltinana ndu wonande mbo ñande darngo o tawa hondu wertaa, o wi*ee janngan hoore ma deftere ma,wonki ma yonii ma hannde kaasboowo..} [Al Israa: 13]

Kala golle foti ko mojje maa ko bonde Alla wadat de takkiide e golludo de o, de yawtataa mbo faade e tanaa makko, aade haasbirtaake golle goddo goo, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]

{ Eehey maa aade pellet ko a tampoowo faade e Jooma kala tampugol, ma a hawru e Makko. } [Al Insiqaaq: 6]

O daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Kala golludo ko moyyi, ko fii hoore-makko; kala kadi bonnudo, yantay e makko. Joomi maa siforaani won de, tooñoowo jeyaabe ben } [Fussilat :46]

Islaam na roonda neddo ndaartiregol kala golle lороoje mbo maa lороoje wobbe,Alla daali:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 111]

{ Kala paggatiido bakkaat o faggatii mbo ko e dow hoore makko, Alla woniina te seeraani wonde ganndo ñeenyudo } [Annasisaa: 111]

Alla daali:

﴿مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: 32]

{ Ko duum wadi Min parli e Bani Israa*iil tigi tigi oon bardo fittaandu ko aldah e fittaando maa o wadi bonannde e leydi he,o wa*i ko e bardo yimbe bee fof, kala guurnudo ndu o wa*i kono guurnudo yimbe bee fof..} [Al Maa*ida : 32]

Be maaki kadi:Fittaandu waretaake e tooñange si wonah wonah wona e biy Aadama gadana o jogoo defaare e

yiiyam mum he,sabu ko kamko adii diidde laawol warngo ngoSahiih Muslim 5150.

18. Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje:

Islaam na fotndi debba e gorka to bannge golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaaje, Alla Toowdo on daali:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ [النساء: 124]

{ Kala golludo e golle moy'ye foti ko gorko wolla debbo hombo gomdini, ko been de naatata Aljanna be tooñetaake fotde gufel tamaro..} [Annisaa: 124]

Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: 97]

{ kala golludo e moy'yi foti ko gorko wollo debbo te hombo gumi, ma Min nguurnu mo nguurndam beldam Min yobabe njobdi mabbe burndi moy'yude kobe golluno } [Annahli : 97]

Alla daali:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ [غافر: 40]

{ Kala badfo bonannde yobetaake si wonah yeru hende,kala golludo ko moy'yi foti ko o gorko wollo ko debbo,been ngoni naatoobe Aljanna be ngarsiqe heen ko aldah e limgol..} [Gaafir: 40]

Alla daali:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: 35]

{ Pellet juulbe worbe e juulbe rewbe e goondibe worbe e goondinbe rewbe e yankaniibe worbe e yankaniibe rewbe e gumbe worbe e gumbe rewbe e muñbe worbe e muñbe rewbe e hulbe Alla worbe e hulbe Alla rewbe e sakkortoobe worbe e sakkortoobe rewbe e hooroobe worbe e hooroobe rewbe e reenoobe farjiiji mabbe worbe reenoobe farjiiji mabbe rewbe e innoobe Alla ko heewi tawa ko worbe e innoobe Alla ko heewi rawbe Alla heblaniibe yaafaawuya e njobdi mawndi . } [Al Ahjaab:35]

19. Islaam teddini debba mbo jaggri debba ko funeere gorko, mbo waddini gorko nafqude tawi hombo hattani, ko kanko kadi nafqata biyum debba e yumma makko, biɗɗo gorko nafqata yumma makko si o hellifaama o hattani, jom galle kadi fawaa nafqude jom suudu mum.

Islaam nanngiri rewbe ko funeebebe worbe. Be maaki kadi: Pellet rewbe ko funeebe worbe. Ko Tirmidhi fillii mo 133. Ina jeyaa ko islaam teddini ko debba, fawde nafaqe yumma e dow biɗɗo makko gorko si tawii hombo hattani. Be maaki kadi: Junngo tottoowo toowngo ko yummo tottata refti baaba refti bandiraawo debba refti musiddoma gorko refti burbe badaade burbe badaade. Ko Imaam Ahmad fillii mbo. Maa laaɓtin de daraja jipaabe ar e sakkitoore Alla e tay're (29) Ina jeyaa ko hollata islaam na teddini debba, kombo waddi ko nafaqe debba e dow jom galle makko tawii hombo hattani, Alla daali:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]

{ Yo nafqu jom yaajeende ko o yaajnana ko, oon mbo yaajnanaako noon, yo o nafqu e ko Alla hokki mbo ko, Alla fawatah fittaandu kondu hattantah, ma Alla wad newuya caggal satteende } [Attalaaq: 7]

Gorko gooto naamninooma Nulaaɗo yo jam e kisal won e dow makko: Hol ko woni haqqe debba e dow gorka? O wi*i:

yo o ñammin mbo si o weelaama, o holtina mbo si o holii, woto o fiy yeesa makko woto o kaanin mbo.Ko Imaam Ahmad fillii mbo.

Nulaaɗo mo jam e kisal woni e mum maaki hombo hollita yogo e hakkeeji rewbe e dow jom galleeji mum en.Na woodani suddiibe be e dow jom galleeji mum en nafaqe mabbe e koltu mum en no moy'irta nih.Sahiih Muslim.

Be maaki kadi:Yoni aade bakkaat nde yeebatoo mbo o foti wuurnude.Ko Imaam Ahmad fillii mbo.

Khataabii wii:Konngol makko (mbo o wuurnata) faanda heen kombo nguuro mum fawii, maana mum: O wii cakkorɗo o: woto sakkor ko burtaani nguura galle ma ngam yiilaade baraaaje, si wonah noon ɗum wontat bakkat, si a yeebiimo yimbe galle ma.Ina jeyaa ko Islaam teddiniri ko debbo, ko fawde nguure biɗɗo debbo e dow baaba makko Alla daali:

﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِضْفُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾[البقرة: 233]

{ Jipnaabe na muynina bibbe mum en kitaale ɗiɗi timmude, wonan de faalaado timminde muynam, na fawii e dow jibinanaado o arsuka mum en e koltu mum en na moy'iri nih. } [Al Baqara: 233]

Alla hollitii wonde na fawii e dow baaba jibinanaado suko, ñamminde e holtinde mbo e mbaadi labaandi, Alla daali:

﴿...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ...﴾[الطلاق: 6]

{...Sikoɓe muyninanii mon totteeɓe njoy'ɓdi mum en...} [Attalaaq: 6]

Alla fawi njobdi muynam cuklel e dow baaba sabu tinndinde won de nafake suko ko e dow baaba fawii,foti ko suko debbo maa ko gorko, Hadiis aroowo o na tinndina fawaade nafaqe cuddiido e sukaabe mum e dow

baaba.Ummaade e Aaysa yo weluya Alla won e mum:Hindi wii Nulaado mo jam e kisal ngoni e mum: Abu Sufyaan ko gorko dawoowo tigi,mida hatajini nde y'ettatmi huunde e jawdi mum hee,O Maaki:y'ettu ko yon maa aan e sukaabe maa tawa ko mbaadi moyy'iri.Ko Bukhaari fillii mbo.

Nulaado teddufo o hollii bural nafqude sukaabe e banndiraabe rewbe, Nulaado Alla yo o his wii:Oon guurnudo jiwbe dido maa tato wolla banndiraabe mum en dido, wolla tato,haa be maayi wolla o maayi o acci be,mami wonda e makko hono dii didi:O jooqi honndu makko jooqrdu e hakkundeeru ndu.Assilsilatu Assahiiha 296.

20. Maayde wonaa kuufal duumingal, maayde ko eggude galle golle faade e galle njobdi, maayde na heba banndu e fittandu, maayde fitaandu woni seerde ki e banndu, refti ki ruttoo e hendu caggal ummital, fittaandu ruttataaka e banndu wo'ndu ki tummbittaake kadi e banndu wo'ndu.

Maayde wonah gasgol duumingol, Alla daali:

﴿قُلْ يَتُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11]

{Maaku na maayna on Malikul mawti oon keednaado e mon refti koto Joomi mon nduttete don.} [Assajadah :11]

Maayde hebata ko banndu e fittaandu, maayde fittaandu woni seerde ndu e banndu he, refti ndu ruttoo e hendu caggal ummita ñande darngo, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ

وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

{Alla Hombo wara pittaali saanga maayde majji yonti, di maayaani e doyd'i majji, O nannga ñaawanaa ndu maayde ndu O accita wonndu ndu haa e happu dottaado, ina e duum kaawisaaji wonande miijatoobe.} [Ajjumuri: 42]

Be maaki kadi: Pellet si wonki tamaama ndaarde ndewa heen. Ko Muslim fillii mbo 920. Caggal maayde aade egga galle golle faade e galle njobdi, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ

وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: 42]

{Ko e makko woni ruttorde mon onon fof, fodoore Alla ko goongo, pellet Hombo fudfo tagoore refti O ruttande haa O yoba been goondinbe refti be golli golle moy'ye e , been heeferbe woodaniibe njaram nguldam e lepte cattude sabu kobe yeddunoo ko.} [Yuunis: 4]

fittaandu eggatah caggal maayde faade e banndu goo,ki tummbittaake, nodditaade tummbiteede wonkiji hakkille tinndinaani dum,te ko so*etee kadi tinndinaani dum,hay daliil gooto eggaado ummaade e Annabaabe yo jam won e mum en seedaaki nde fibnde.

21. Islaam noddata ko e gumre tawa mbo fawii ko e tuugle gumre mawde de,ko deen ngoni:goondinde Alla e Malaykaaji Makko e defte Alliyankooje dee,hono Tawreet,Injiil e Jabuur ko adi nde de mbaylatee nde,e AlQuraana e goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe e goondinde ñalngu cakkatiingu,heden anndi si nguurndam aduna wonna cakkatiidam maa nguurndam e goodal ngonatno fijirde banngunde,ko noon kadi no waddii jabde hoddira e ñaawoore:

islaam na nodda faade e goondinde asleeji gumre njani din, denndaangal Annabaabe Nulaabe yo kisal won e mum en noddii faade e diin,diin ngoni:

Gadanel: goondinde ko Alla woni Joomiraawo tagdo arsiqinoowo jiiloowo nde winndere, ko kamko tan haandi e rewede, rewde mbo wonah Kamko ko meere, haanaani

reweede si wonah Alla, dewal sellatah si wonah sabu Makko. Dallillaaji hollirde o fiyaaku yawtii tonngoode 8.

Alla jantiima d̄ii asliiji njani e nder aayeeje keewde ceertude nder Alquraana teddufo o, Alla daali:

﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.} [Albaqara: 285]

.Alla daali:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]

{diggere firtaani nde kuccitinton jeece mon faade funnaange e hirnaange kono diggere woni goondinde Alla e ñalawma cakkatiido e malaykaaji e deftere e annabaabe o tottiri jawdi won dude ko o yidindi ko badiibe e alyatimeebe e miskineebe e datniibe e naamnatoobe e jiyaabe e darnoobe juulde e tottiroowo askal e huubnoobe aadi mum en sibe tottorii aadi e muñoobe saanga satteende e lorooji e saanga bittere ko been ngoni hulbe ben } [Al Baqara:177]

Alla noddi faade e goondinde d̄ii asliiji O holliti wonde kala jeddufo d̄ii o majjii majjere woɗɗunde Alla daali:

﴿بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{Ono goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jeddudo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum eñalawma cakkitiido o majjii majjer wodfunde.} [Annis: 136]

Arii e nder Hadiis ummaade e Umar Ibnul khattaab yo weluyo Alla won e makko, Nulaado maaki:Ñalnde goo meden joodinoo ka Nulaado Alla jam kise yo won e mum, tan y'ellitii e dow amen gorko jom comci,daneeji tal e sukundu baleeru kurum,batte datngal yi'otaako e makko,hay gooto e amen kadi anndaa mo.O joodii takko Annabiijo on (yo o his),o jicci koppi makko din faade e koppi mabbe din,o fawi newe makko den e hoore buse makko den.O wi'i:Ko an yo Muhammadu,humpitam ko woni lisaamu. Nulaado Alla on mo jam e kisyye woni e mun on maaki:L'islaamu,ko nde seedoto-daa reweteedo tanaa Allaahu alaa,e wonnde ko e Makko Muhammadu nuli mo,ñiibinaa julde,tottaa askal,hooraa lewru koorko, hajjoyaa to suudu hormanteeru si a hadtani e dum laawol.O wi'i:A goongii['Omar,fillotoodo on hadiise on wi'i:]Men haawaa e oo,himo lamndoo Nulaado on o goongina be.[O lamnditii] o wi'i:Humpitam ko woni liimaanu(gomdfinal).Be maaki:"Ko nde gomdfintaa Alla,e Malaa'ika en Makko,e Defte Makko den,e Nulaabe Makko ben, e Ñalaande Sakkitiinde nden,gomdfinaa kadi koddoruyee:ko moy'yi e mun e ko boni e mun".O wi'i:A goongii.[O lamnditii]o wi'i:Humpitam ko woni lihsaanu (moy'yingol). Be maaki:"Ko nde rewirtaa Allaha wana si tawii hada ya Mo.Si tawii non a yiani Mo,anndu kan himo yia maa".[O lamnditii] o wi'i:Humpitam

hode woni darnga.Be maaki:"Lamndaado on fii maggal wonaali burdo annude lamndiido on".[O lamnditii]o wi'i: Humpitam fii maande maggal.Be maaki:"Ko nde kordo jibinta jeydo mo,e nde yi'ataa holunooobe [pade],holi [comci],aynaynoobe dammuwaji hobe burndira e toowugol mahdijji".Refti o yehi.Mi niibi ko booyi,hooti Nulaado on maaki:"Ko an yo 'Omar,hida anndi ko hommbo woni oo lamndiido?" Mi jaabii:ko Alla e Nulaado Makko on buri annude.Be maaki:"Oo ko Jibriilu,o arii on himo anndina on diina mon".Sahiih Muslim 8..

E o hadiis Jibriil arii e Nulaado Muhamadu yo o his, o naamnii Mbo martabaaji diine diin ngoni: Islaam, Iimaan e Ihsaan Nulaado jaabii mbo, refti Nulaado habri sahabaabe makko wonde ko o woni Jibriil o arii ngam anndinde mon diine mon, ko dum wini Islaam kammba woni nelal Alliyankeewal ngal Jibriil eggii o yottini ngal Nulaado Muhamadu yo o his, wondiibe makko be ndeeni mbo be njottani mbo yimbe ben caggal makko.

Goondinde malaykaaji : been kobe winndere wirniinde Alla tagibe O wadiibe e mbaadi toddaandi, O fawibe golle njane, na jeyaa e majje yottinde nule Alliyankooje wonande Nulaabe e Annabaabe yo kisal won e mumen, ko Jiriil buri teddude e Malaykaaji he, na tinndina tellingol Jibriil wahyu e dow Nulaabe he konngol Alla:

﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ [النحل: 2]

{Hombo jippinira malaykaaji e Ruuhu e dow mbo O welaa e jiyaabe Makko,njeertinee won de pellet alah deweteeo si wonah Miin ndeentee Kam.} [Annahli: 2]

Alla daali:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولَىٰ ﴿١٩٦﴾﴾ [الشعراء: 192-196]

{Kande pellet jippinaande ummorde to Jom binnde (192) Jippininde ko Ruuhu koolaado On (193) E bernde ma ngam ngonaa e jeertinoobe (194) E demngal arabiyankeewal laabngal (195) Honde woni e defte adiiɓe ɓe (196)} [Assu*araa: 192-196]

Goondinde defte Alliyankooje : hono Tawreeta e Injiil e Jabuur-ko adii ndede mbaylete- e Quraana Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: 136]

{Eehey mon goondinɓe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jedduɗo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaado Mum e ñalawma cakkitiido o majjii majjer wodfunde.} [Annis: 136]

Alla daali:

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلِ هَذِهِ لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾﴾ [آل عمران: 3-4]

{O telliniri deftere nde e maa goongo honde goondini ko woni ko yeesa mayre O tellilini Tawreeta e Injiil (3) Ko adii konde peewal wonande aade en O tellini Furqaan, been yedduɓe kaawisaaji Alla de woodaniibe lepte cattude Alla ko pooluɗo jom jobtagol (4) } [Aali Imraana: 3-4]

Alla daali:

﴿عَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَوَّلَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Nulaado goondanii ko jippinaa ko e Makko ummade e Joom Makko, e goondinbe be fof be goondanii Alla e malaykaaji Makko e defte makko e Nulaabe makko, min ceerndatah hay gooto e Nulaabe makko, be wii min nanii min doftiima hafran amen Joomi amen ko Mah woni ruttorde} [Albaqara: 285]

Alla daali:

﴿قُلْ عَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

{Maaku: "Men gomdini Alla e ko jippinaa dow amen e ko jippinaa dow Ibrahiima e Isma'iila e Ishaqa e Yaaquuba e Taaniraabe ben e ko Muusaa e Iisaa okkaa e Annabaabe ben immorde ka Joomi mabbe. Men serndataa hakkunde gooto e mabbe, Menen wonande Mo ko men jebbiliibe} [".Aali Imraan: 84]

Goondinde denndaangal Annabaabe : e Nulaabe yo kisal won e mum en, na waddii goondinde denndaangal Annabaabe e fiɓde wonde kambe fof kobe Nulaabe ummaade to Alla hobe njottina yimbe mum en nule e diine e sariya Alla, Alla daali:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

{Mbiyee min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa*iil e Ishaqa e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa tottaa ko e Iisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joomi mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilinii Mbo} [Al Baqara: 136]

Alla daali:

﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko,fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde..} [Albaqara: 285]

.Alla daali:

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]

{“Wii min goondinii Alla e ko tellinaa e amen e ko tellinaa e Ibraahiima e Ismaa*iil e Ishaqa e yaaquuba e Asbaadi e ko Muusa tottaa ko e Iisa e ko Annabaabe tottaa ko ummorde ka Joom mum en, min ceerndatah hakkunde gooto e mum en, emin njebbilinii Mbo.} [Aali Imraan: 84]

Nde o goondinta timmoode mum en Muhamed yo o his, ko kanko woni timminɗo Annabaabe e Nulaabe yo jam won e mum en, Alla daali:

﴿إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَتَنْصُرْتَهُ قَالَ ءَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{Tuma nde Alla yettunoo ahdi e Annabaabe ben : "Si Mi Addanii on Deftere e fahmu, refti Nulaado ari e mo'on goongindo kon ko jogidon, ma on gomdin mo wallitodon mo". O Daali: "E on qirritike dum, on yettii e hoore mun ahadi?". Be wi'i: "Men qirritike". O Daali: "Seeditee, Mido wondi e mo'on ka seeditiibe". } [Aali Imraan: 81]

Islaam na waddina goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaaebe, na waddina kadi goondinde timmoode mum en Muhamed yo o his, Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتَمِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [المائدة: 68]

{ Maaku onon jom en defte on ngonaani e hay huunde haa ndarnon Tawreeta e Injiil e ko tellinaa ko faade e mon ummaade e Joomi mon.."} [Al Maa*ida : 68]

Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{ Maaku:"Ko onon yo yimbe Defte,ngaree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en mbaddataa Mo e huunde,wata yoga e me'en jogitor yogo joomiraabe ko woori Alla".Si be huccitii,wi*ee:"ceeditee wonnde menen ko men jebbiliibe } [Aali Imraan: 64]

Kala jeddufo Annabi gooto o yeddiibe kambe fof e Nulaabe fof yo jam won e mum en, ko dum saabii O daali hombo hafra gaa e Nuuh yo o his:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]

{ Yimbe Nuuh njeddii Nulaabe.} [Assu*araa: 105]

Na anndaa won de hay Nulaado gooto adaaki Nuuhu, kono nde yimbe Makko njeddi mbo, ngol jeddugol woni jeddugol denndaangal Annabaabe e Nulaabe, sabu noddaandu mum en ko wooturu faandaare mum en ko wootere..

Goondñy'inde ñande darngo: ndeen woni sakkatiinde e nguurdam aduna, Alla yamira Asraafiil o wutta wuttaango fadfoowo, kala mbo Alla haaji maaya, Alla daali:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ

فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{ Wuttee ka Allaandu, kala ko woni ka kammuuli e ka leydi kon faddee, si wanaa ben be Allah muuyani [dadugol]. Refti wuttee e mayru didabol, tawa ko be dariibe na habbitii.} [Ajjumur: 68]

Si halkiima kala ko wonno e kammuuji e leydi, si wonah ko Alla haaji, Alla tagga kammuuji e leydi, hono no O daaliri:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104]

{ ñande Min cowi kammu o hono no defte sowrate, Min nduttat tagu ngu hono no Min puddirinoo ngu nih,ko fodoore e dow amen pellet ko Min wadoobe } [Al Anbiyaa:104]

Alla daali:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67]

{ be mawnaniraani Alla no O foti mawnanireede nih, te leydi ndii fof ko e tamannde Makko ñande darnga, kammuuji dñi na cowaa e ñaama Makko, senaade woodanii Mbo, O toowii kobe ndenndinta Mbo ko } [Ajjumiri: 67]

Be maaki kadi:Alla sowa kammuuji dñi ñande darnga refti O nanngira dñi ñaamo Makko O daala:Ko miin woni laamdo hodo sanndalinnoo? hodo mawnikinoo- be,refiti O sowira lesdeele de nana Makko refti O daala:ko Miin wini laamdo hodo sanndalinnoo?Hodo mawnikinoobe?Ko Muslim fillii mo.Refti Alla yamira malayka yo o wuttu heen wuttaango wonngo, e doon be ummoo hobe ndaarandira, Alla daali:

﴿... ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: 68]

{ Refti wuuttee nder hendu wuttaandu wodndu be ummo kisan hobe ndaara. } [Ajjumur: 68]

Si Alla umminii tagu ngu O renndinabe ngam hisaab, Alla daali:

﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: 44]

{ ñande leydi ndi fetti gaa mum en hobe njaawnoo, dum ko denndingol newingol e Amen..} [Qaaf: 44]

Alla daali:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

﴿غافر: 16﴾

{ ñalgu mbo be njaltata hay huunde e mabbe wirnataaka Alla, hombo laamu woodani hannde ? Ko Alla bajjo pooloowo O ngu woodani.} [Gaafir: 16]

nguu ñalngu Alla haasbo aade en,O yoftanoo kala tooñaado ummaade e tooñdo,mo kala yobe fotde golle makko,Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

﴿غافر: 17﴾

{ Hannde kala fittaandu yobete kondu faggatino, tooñanngel alah hannde, Alla na yaawi haasboore.} [Gaafir: 17]

Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

﴾ [النساء: 40]

{ Pellet Alla tooñatah fotde gabbel jarra, si wonii ko moyy'ere O sowande O totta ummaade e Makko njeenaari mawndi } [Annisa: 40]

Alla daali:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ﴾ [الزلزلة: 7-8]

{ kala golludo fotde gabbel jarra e moyy'ere o yi*a nde (7) Kala golludo fotde gabbel jarra e bonannde ma yii dum (8)} [Ajjaljala : 7-8]

Alla daali:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47]

{ Min lelna peesirgal wonande ñalngu darnga, fittaandu tooñetaake hay ndiga, hay si wonii fotde gabbel kardal ma Min ngaddu ngel Min njonii hasboobe } [Al Anbiya :47]

Caggal ummital e hasbeede njobdi ara kala golludo ko moyyi o heba neema duumiido mbo iwatah, kala golludo ko boni o heba lepte, Alla daali:

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فَأُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الحج: 56-57]

{ Laamu woodanii Alla hannde Hombo ñaawa hakkunde mum en, been goondibe ko moyyi hobe e nder aljanna neema (56)} Yeddube be noon be njeddi kaawnii am Amen deen woodaniibe lepte koynooje (57)} [Al Hajju: 56-67]

Heden nganndi si nguurndam aduna wonno haadtirde,ma nguurndam e goodal wonatna fijirdee bolde, Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾﴾ [المؤمنون: 115]

{ Mbele on cikku ko fijirde wadi takmi mon, mbela pellet on nduttataako e Amen } [Al Muuminuun : 115]

Goondinde ñaawoore: e hoddira, duum woni na wad'dii goondinde wonde Alla anndii ko wonnoo e ko wonata e nde winndere, Alla winndii dum fof ko adii de kammuuji e leydi tagate, Alla daali:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾ [الأنعام: 59]

{ Homba jogii coktirde mbirniindi hay gooto anndaade si wonah Kanmko, Hombo anndi ko woni e jeeri e maaya, kaakalol yanatah si wonah tawa Hombo anndi ngol, wonah gabbel e nibe leydi wonah ko heccidi wonah ko yoori si wonah tawa na winnda e deftere banngunde.} [Al An Aam :59.]

Alla na fiiltii kala huunde e ganndal Makko, Alla daali:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: 12]

{ Alla woni Oon takdo kammuuji jeedidi e leydi yeru majji Hombo tellina yamiroore hakkunde majji, haa nganndon won de Alla ko kattando kala huunde, te pellet Alla ko piiltiido kala huunde e ganndal Makko..} [Attalaaq: 12]

Alah ko yanta e nde winndere si wonah taw Alla na muuyi dum O haaja, O tagi dum O newni sababuuji mum, Alla daali:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾﴾ [الفرقان: 2]

{ Mbo laamu kammuuji e leydi woodani, O jogitaaki biɗɗo, O alah denndadiijo e laamu mum he, O tagi kala huunde O hoddarinde koddirgol. } [Al furqaan:2]

Na woodani mbo e duum ñeenyal jottingal, ngal yimbe mbaawah fiiltaade, Alla daali:

﴿حِكْمَةٌ بِالْعَمَلِ فَمَا تُغْنِ التُّذْرُ﴾ [القمر: 5]

{ " ñeeñal jottingal jeertinoobe nafaani. } [Al Qamar: 5]

Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: 27]

{ Ko kamko fuddi takde ngoore nde refti O ruttande hina newii e makko, na woodani Mbo yeru burngu toowde nder kammuuji e leydi, ko Kamko woni poolɗo mbo fooletaake ñeeñuɗo } [Arruum: 27]

Alla sifarii Hoore Makko nyeenyal, O inniri Hoore Makko ñeenyɗuɗo, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

{ Alla seediima wonde pellet dewettedo e goonga alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteedo alah si wonah kamko, kamko woni poolɗo mbo fooletaake ñeeñuɗo. } [Aali Imraan: 18]

Alla daali hombo habra gaa e Iisa yo o his, wonde ko kaalɗoowo e Alla ñande darnga, O daali:

﴿إِن تَعَدَّيْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]

{ Si A leptii ɓe, pellet, kamɓe ko ɓe jeyaaɓe Maada. Si A haforanii ɓe, pellet, ko An woni Fooluɗo, Ñeeñuɗo. } [Al Maa*ida :118]

Alla daalani Muusa mbo kisal woni tumo nde O noddi mbo e bannege Tuur:

﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ ﴾ [النمل: 9]

{ Aan Muusa ko Miin de pellet woni Alla pooludo ñeeñudo } [Annamli: 9]

sifari iAL quraana teddufo ñeeñal, Alla daali:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾﴾ [هود: 1]

{ Alif laam Raa, deftere nde aayeeje mayre ñdeeñina ummorde e ñeeñudo kumpatiido..} [Huud: 1]

Alla daali:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي

جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾﴾ [الإسراء: 39]

{ duum na jeyaa ko Joom ma wahyii e ñeeñal, woto waɗdu Alla e deweteedo godɗo mbernoyeda e jahannama ñiñaado godɗinaado yurmeende Alla.} [Al Israa: 39]

22. Annabaabe ko reenaabe kobe njottinanta ko Alla , kobe reenaabe e kala ko yaadaani e hakkille maa ko jikku kisdɗo salato, ka Annabaabe fawaa yottin de jamirooje Alla faade e jiyaabe Makko, Annabaabe ngalah ko Alla heerori ko e jeyde e reweede, alah kambe kobe bannduyankooɓe, hono denndaangal aade en, Alla na wahyoo e maɓɓe nule Makko ɗe:

Annabaabe kobe reenaabe kobe njottinanta ko Alla, sabu Alla suboto e furbe e tagoore Mum he ɓe njottinana Mbo nule Makko ɗe, Alla daali:

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾﴾ [الحج: 75]

{ Alla na suboo ummaade e malaykaaji nulaabe e yimbe hee kadi homb subo e maɗɓe nulaabe, pellet Alla ko nanoowo ko ji*oowo.} [Al Hajji: 75]

Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل

عمران: 33]

{ Pellet, Alla Subike Aadama e Nuuhu e yimbe Ibraahiima ben e yimbe Imraana ben e hoore tagoore nden.} [Aali Imraan: 33.]

Alla daali:

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أُصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ

الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 144]

{ O Daali : "Ko an yo Muusaa, Min Mi suborii ma e yimbe ben Nule Am den e konngol am ngol. Jogito ko Mi jonnu maa kon jeyedaa e yettoobe ben } [Al Araaf: 144]

Nulabe be jam e kisal ngoni e mum en hobe nganndi ko tellinaa ko e dow mum en ko wahyu Alliyanke, hobe ceedo malaykaaji na tellina wahyu, Alla toowdo O daali:

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن

بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٦﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدِ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾﴾ [الجن: 26-28]

{ Gannda mbirniindi hay gooto O yellittah e mbirniindi Makko hee.(26) Tawi wonah Mbo welaa e Nulaada, oon de Hombo nulda yeeso makko e caggal makko maleykaaji reenoobe (27) Haa o annda wonde be njottanii nule Joom mabbe de tigi O fiiltii ko woni koo e mum en O tonngi limoore kala huunde. (28)} [Al Jinni 26, 28]

Alla yamirife yottinde nulal Makko ngal O daali:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 67]

{ Ee hey maa Nulaado yottin ko tellinaa ko e Maa ummaade e Joom Maa, si A wadaani A yottinaani nul Makko

ngal, Alla na reen Maa e yimbe he, Alla dee feewnatah tooñoobe ben..} [Al Maaùida :67]

Alla daali:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]

{ Nulaabe weltinoobe e jertinoobe fii wata hujja wonan yimbe ben e hoore Alla baawo Nulaabe ben. Alla Laatike Foolufo, Ñeeñufo..} [Annisaa: 165]

Nulaabe yo kisal won e Mum en hoobe kuli Alla kulol cattungol, be kuli Mbo be beydatah e nulal Makko hee, be ustatah heen hay huunde, Alla daali:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الحاقة: 44-47]

{ Siko o fekindinooomo e Am yogo e konngudi (44) Ma Min nanngir mo naama (45) Refti Min tay'a e makko boggi bernde makko (46) Alah e mon palantoofo mbo (47)} [Al Haaqa: 44-47]

Ibn Al kasiir (yo Alla hinno mo) wi:i:Alla toowfo O daali: (si o fekindiima e Amen yogo e konngudi) Si Muhamadu yo O his fekindiima e Amen O beydi maa o usti heen huunde O askini dum e Amen, Ma Min cafrir dum lepte, ko dum wadi O daali: (ma min nanngir mbo ñaama) wi*aama: ma min leptir mbo ñaama, sabu ko kanngo furi sattude jawlannde, wi*aama kadi : Ma Min nanngu e ñaama makko wolla woondoore makko.O daali:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَّمَ مَا

فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴿١٧٦﴾ مَا قُلْتُهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ

أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِدًا مَّا ذُمْتُمْ بِهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ [المائدة: 116-117]

{ Esiftor tumo nde Alla daali Aan Iisa biy Maryama,ko Aan maakani yimbe be njaggiree kam Miin e Neene am rewetebe ko wonah Alla,O maaki senaade woodanii Ma,haanaani mi nde kaalat Mi ko wonah goonga,somi haalii duum pellet hada anndi dum,Ana anndi ko woni e fittaandu am Mi anndah ko woni e fittaandu Maa,pellet ko Aan woni Ganndo mbirniindi,Mi wi*aanibe si wonah ko njimirdon Mi ko,ndewee Alla Joomam e Joomi mon,Mi laatina seede e dow mum en nde ngon Mi nde e mum en,nde kuubnuda Mi nde ngon-daa Koroowo e dow mabbe,Aan ko a ceediido e dow kala huunde } [Al Maa*ida :116-117]

.Ina jeyaa e bure Alla e dow Annabaabe e Nulaabe Mum yobe kis, Alla tabatiniibe saanga ndebe njottinatnoo nule Makko dee, Alla daali:

﴿إِن نُّقُولُ إِلَّا أَعْتَرْنَاكَ بَعْضَ آهَاتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: 54-56]

{... O wii pellet mino seedna Alla ceedee komi kisdō e ko cirkaton ko(54) e tanah Makko on sabbetaake(55) Tigi tigi Mi wakkaliima e Alla Joomam e Joom mon alah daabaayel goodangel si wonah hombo nanngi e tiintiinol maggel,pellet Joom am ina e laawol poothingol }[Huid: 54-56]

Alla daali:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيتَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْ لَا أَنْ تُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾ [الإسراء: 73-75]

Alla daali hombo habra konngol Muusa mo kisal woni e dow makko:

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعِنَا ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ﴾

﴿طه: 45-46﴾

{ Be mbii pellet minen emin kuli nde o fantinta jaggitgol e dow amen wolla o bewa, O daali taa kulee pellet Mina wondi e mon Mina nana Mi yi*a } [Taaha :45-46]

Alla holli won de hombo reena Nulaabe Makko ummmaade añbe mum en,be yottintaabe bonannde,Alla holli kadi Hombo reena wahyu Makko on,mbo ustetaake mbo beydetaake O daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿الحجر: 9﴾

{ Ko Minen tellini ALquraana ko Minen reenata mbo } [Al Hijri :9]

Annabaabe yo kisal won e Mum en ko renaabe e kala ko yaadaani e hakkille wolla jikku, Alla daali hombo labbina Muamadu:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿القلم: 4﴾

{ Aan hada woni e dow jukku teddudo. } [Al Qalam: 4]

O daali e Makko kadi:

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ ﴿التكوير: 22﴾

{ Gondiijo mon wonah haangaaka. } [Attakwiir: 22]

Sabu bade ndaroo e nelal ngal e mbaadi burndi labeede,Annabaabe yo kisal won e mum en na pawaa yottinde jamirooje Alla ngam jeyaaabe Makko,be ngalah noon ko Joomi men heerori to banng e Aliyankaagal ma e banng e wonde deweteedo,kambe kobe aade en hono no aadee en fof,wahyu na teloo e mum en, ngam nule Alla, Alla daali:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ﴾

﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ﴾

﴿المؤمنون: 11﴾ ﴿ابراهيم: 11﴾

{ Nulaado mabbe ben wiibe Min ngonah si wonah bannduyankoobe kono Alla na yeda mbo O welaa e Jiyaabe Makko,woodanaana Min nde Min addanta on hujja si wonah e sakkitoore Alla, ko e Alla tan goondinbe pawatoo } [Ibraahiima: 11]

Alla daali na yamira Nulaado makko Muhamadu yo o his yo O haalan yimbe mum:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

{ Maaku pellet komi bannduyanke hono mon, ina wahye e am wonde tigi tigi deweteedo mon ko gooto, kala tijjido hawrude Joomi makko yo o gollu gollal mojjal woto o rewdu Alla e goddum..} [AL Kahfi:110]

23. Islaaml noddata ko yoo Alla tan rewire asliiji dewe Alla njane den, deen ngoni: Juulde nde ngannduda woni daraade e rukuu e sujuud e yettude e manntude Alla e toraade,juulda na juula ñande fof laabi joy, seerugol hakkunde gala e baasdoola e laamdo e laamaado fof ittoo, kambe fof be ndaroo e sappe goota e nde juulde he, e Askal dum ko huunde setta e jawdi won dude e sarteji e emmbereji di Alla dotti, dum na waddi e jawdi aldube nafqiree waasbe e tanaa mum en, laawol gootol kala hitaande, e Koorka ko dum woni nanngude hoore mum e ko firtata koorka nder ñalawma lewru koorka, dum na neha fittaandu to banngge muuyaande e munyal, e Hajju ko dum woni yaade to ssuudu hormaandu ndu, nduun woni Makka laawol gootol nder nguurndam wonande baawdo, e oo hajju fof en na pota to banngge huccitde e takdo O, aade en fof pota ceergol hakkunde mum en ittoo fes.

Islaam na nodda faade e dewe Allla njane den... de dewe Alla fawiide e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mabbe, buri mawnude e dewe Alla ko:

1. Gadanel ngel woni: Juulde nde Alla farli nde e dow juulbe hono no O farlirinde e denndaangal Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, O yamiri annabi Makko Ibraahiima yo o his nde o labbinta suudu Makka ndu wonande wanngatoobe e juuloobe e sujjoobe, O daali:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَانْتَحَدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]

[125]

{ Nde Min mbabno suudu ndu ko barjordu e hoolaare wonande aade en, njaggiree Maqaam Ibraahiima juulirde, Min aadani Ibraahiima e Ismaa*iil labbinee suudu Am ndu wonande wanngatoobe e uufnatoobe e wadaybe rukuu e sujuud } [Al Baqara: 125]

Alla wadfini dum e Muusa yo o his, e noddaandu adanuru ndu O noddi Muusa O daali:

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴿١٤﴾ ﴿طه: 12-14﴾

{ Pellet ko Miin woni Joomiraawo ma solu pade ma hada woni e caatngol ceninangol tuwaa (12) { Mi subiiimo Ma jenta ko wahyete daa ko } (13) { Ko Miin tigi woni Alla deweteedo alah si wonah Miin wadde ndewe Kam darnu juulde ngam jantaadaa Mi..} (14)} [Ṭaaha 12-14]

O habri Masiihu yo o his, wonde Alla yamarii mbo juulde e askude o wii hono no Alla habriiri:

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ ﴿٣١﴾ [مریم: 31]

{ " O wadi kam barkinaado e nokku kala ka mi woni; O wasiyori lam julde e Jakka, fodde mido wuuri...} [Maryama: 31]

Juulde e nder Islaam ko darnde e rukuu e sujuud e jantaade Alla e mantude Mbo e toraade, neddo na juula laabi joyi kala ñalawma Alla daali:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

{ Ndeene juuldeelee e juulde hakkundeere nde ndaraneer Alla hodon yankinani Mbo } [Al Baqara: 238]

Alla daali:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]

{ Darnu juulde saanga ooñagol naange haa nibel jemma e juulde subaka juulde subaka ko ka seeda } [Al Israa: 78]

Be maaki kadi: Mawninee Joomiraawo saanga rukuu, tawii ko saanga sujuud tiinnee e toraade sabu na haani nde njaabante don. Sahiih Muslim..

2. Askal ngal: Alla farli e juulbe hono no O farlirnoo ngal e Annabaabe e Nulaabe adiiibe be yo kisal won e mum en, askal ko fotde e jawdi tawa na fawii e sardiiiji di Alla hoddiri, hongal fawii e jawle aldube ngal tottee waasbe e tanah mum en kala hitaande laawol gootol, Alla daali:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: 103]

{ Nanngu e jawle mum en sadak labbinaabe heen du*anobe pellet du*aawu Ma ko hubindaare wonandebe Alla de ko nanoowo ganndo..} [Attawba: 103]

Nde Nulaado yo o his nulnoo Mu*aaju yo weluya Alla won e makko faade Yaman o maakani mo: Pellet ma ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah deweteedo e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiimo ma e duum anndiibe farlaama e mum en juuldeelee joyi kala ñalawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum anndiibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nannge aldube maabe tottee waasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento

noddugol tooñaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla.Ko Tirmidhi fillii mo

3. Hoorde: ko Alla farli dum e muslim en hono no farliri dum e Annabaabe e Nulaabe adiiɓe, yo kisal won e mum en. Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]

{ Eehey mon goondinbe koorko farlaama e mon hono no ka farlirano e adiiɓe mon ngam kulon Alla.} [Al Baqara: 183]

Koorko woni accude bonnooji koorko e nder lewru koorko, koorko na neha e nder fittaandu muñal e muuyaande.Be maaki kadi:Alla na daala : koorko ko miin woodani ko Miin yobata ka, saba koordɔ na acca tuuyo mum e ñaamdu mum e yardu sabu Am, koorko ko heedo, na woodani koordɔ beltaaje diɗe: weltaare si o humtiima e weltaare si o hawrrii e Joomi makko.Sahiih Bukhaari 7492.

4. Hajju noon: ko Alla farli dum e juulɓe hono no farlirnoo mbo e Annabaabe e Nulaabe adiiɓe yo kisal won e Mum en, Alla yamiri Annabi Makko Ibraahiima yo o his, nde o noddata faade e hajju Alla daalai:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

﴾ [الحج: 27]

{ Noddu yimbe ɓe faade e hajju ɓe ngara hobe cuudo e dow kala dehiidi ɓe ngara ummorde e laabi godɗud } [Al Hajju :27]

Alla yamari mbo nde o labbinta suudu ndu wonande been hajjoobe, O daali:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26]

{ Nde Min holliti Ibraahaama nokku suudu ndu woto o renndin amen e tanaa amen hay huunde, labbin suudu ndu wonan de wanngatoob e dariibe e turotoobe e sujjoobe..} [Al HAJJU: 26]

Hajju woni:faandaraade suudu Alla hormaandu wonndu to Makka golle ganndaade laawol gootol nder nguurndam wonan de kattando Alla daali:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

[آل عمران: 97]

{... Woodanii Alla e dow yimbe hajjude e suudu ndu wonande kattando laawol faade e hendu, oon jeddufo noon pellet Alla na yondanii gaa e winndere hee.} [Aali Imraan: 97]

E nder hajju juulbe be ndenndata e nokku gooto hobe cellini dewal Alla, denndaangal hajjoobe hobe tottira dewe e mbaadi nanndundi na seera heen hakkunde mum en ceerundale neesu e pinal e tolnde nguura.

24. Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteaji majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata.

Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteaji majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata:

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ [المائدة: 3]

{... Ko hannde kempinan Mi on diine mon, timminan Mi on dokke Am, mbelanaa Mi on diine Islaam diine..} [Al Maa*ida :3]

Alla daali::

﴿فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43]

{ Jogito kon ko wahyinaa e maada. Pellet, hida jokki laawol pocciingol.} [Ajukrufi: 43]

Alla daali gaa e juulde:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]

{ Si on gaynii juulde inntee hoḍon ndarii e hoḍon njoodi e banngeeki mon, si on ndeey'i ndarnee juulde, pellet juulde ko farilla waqtinaado e dow juulbe.} [Annisaa: 103]

Alla daali e no askal e ḍo askal foti totteede:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]

{ Anndee sadakaaji ḍin ko fii waasube ben, e miskiinaabe ben, e golloobe e majji ben, e woowinirteebe berde mun (Lislaamu) ben, e daade rimḍinteebe, e ben ñamliibe, e fii laawol Alla e bii-laawol. Ko farilla immorde ka Alla. Alla ko Annduḍo Ñeeñuḍo. } (Attawba: 60)

Alla daali e koorko:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ

اللَّهُ بِكُمُ الْإِسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمُ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]

{ Lewru koorka ndun, ndu Alqur'aanaare nden jippinaa e mu'un, ko ndu peewal wonannde yimbe ben e bangannduyeeji immorde e peewal e serndugol. On e mo'on seediido lewru ndun, yo o hooru ndu. On tawḍo no nawni maa himo e hoore-jahal, ko limtugol e ñaldí goo. Alla no Faandanii on neweende O Faandanaaki on sadteende; e fii

yo on timmin limoore nden e no mawniniron Alla kon ko O Fewni on, belajo'o on jaarnay Mo.} [Al Baqara:185]

Alla daali gaa e Hajju:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]

{ lebbi anndaafi. Mo anniyike e nder majji hajju,renndugol alaa,wanaa faasoqingol wanaa kadi yeddondiro ka hajju.Kala ko gollugdon e moy'ere, Allah no Anndi dum.Yoobe,ko buri moy'ude e njooba,ko gomdal. Hulee Lam yo joomiraabe haqillaaji..} [Al Baqara:197]

Denndaangal dee dewe Alla woni ko denndaangal Annabaabe noddi, yo kisal won e mum en.

25. Nulaado islaam o Muhamadu kamko woni biy Abdullaay jeyaado e Ismaa*iil biy Ibraahiima yo kisal won e mum en,O jibinaa ko e Makka hitaande 571 j i O nelaa toon O feri faade Madiina O renndaano e yimbe makko ko faati e rewde sanamuuji,kono hombo renndatnoo e mum en ko faati e golle teddufe,yimbe makko no inniratnoo mbo koolaado sabu jikku makko laabdo,nde dañi duubi 40 Alla sembiniri mbo kaawisaaji mawdi,ko Alquraana buri heen mawnu ko kambo woni keddiido haa jooni,nde o timmini diine Nulaado yottini mbo no haaniri nih,o sankii hombo yaara e duubi 63 o wirnaa to Madiina,Nulaado Muhamadu woni timmorde annabaabe e Nulaabe, Alla neliri mbo peewal e yaltinde aade en e nibe sanamuuji e keefaraagal e majjere,faade annoore tawhiid e iimaan,Alla seedi wonde O nelii mbo noddoowo faade e Alla e yamiroore Makko.

Nulaado Islaam woni Muhamadu biy Abdullaay jeyaado e Ismaaiil biy Ibraahiima, O jibinaa ko e Makka hitaande 571 Ji, O nelaa toon, O feri faade Madiina, yimbe makko na

inndiranoo mbo koolaado, O renndaana e yimbe mum ko faati e rewde sanamuuji, kono tan hombo renndatnoo e mum en e golle teddude, hombo joginoo jikku lobba ko adii nuleede mbo, Alla sifarii mbo jikku lobbo, O daali:

﴿وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]

{ "Aan hada woni e dow jukku teddufo. } [Al Qalam: 4]

Alla neli mbo nde o hebi kitaale 40, O semmbiniri mbo kaawisaaji mawdi, ko alquraana buri heen mawnude. Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: Alah e Annabaabe si wonah o totte fotde ko yimbe be goondini, kono Miin tottaa Mi ko wahyu mbo Alla wahyii Mi, mbeda joortii nde kebat Mi ko buribe sukkube e amo ande darngo. Ko Bukaari fillii mbo. Aluraana teddufo o ko wahyu faade e Nulaado yo o his, Alla daali:

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]

{ Ndeen deftere sikke alah e mayre, ina e hende peewal wonande hulbe Alla. } [Al Baqara : 2]

Alla Toowdo daali:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

[النساء: 82]

{ Mbele be teskataako Aluraana, sinde ummino ka wonah Alla mabe taw e mayre luural keewngal.. } [Annisa: 82]

Alla dikkii yimbe e jinneeji nde be addata yeru mayre O daali:

﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِيْنَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا

كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]

{ Maaku si aade en e jinneeji ndentii ngam addude hono oo Alquraana, be ngaddatah yeru mamba, hay sibe mballandirii. } [Al Israa:88]

Alla dikkii be nde be ngaddata cimooje sappa yeru mambo, Alla daali:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمَ مِّنْ دُونِ

اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ [هود: 13]

{Mbele be wii O fekindi mbo, maaku addee cimooje sappa yeru hembo tawa ko fekiindaade, nodde mbo waawdon noddude mbo wonah Alla tawi ko on goondube"} [Hud: 13]

Alla dikkii be nde be ngaddata simoore wootetre yeru Alquraana Alla daali:

﴿وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ

دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ [البقرة: 23]

{Si on wonii e sikke ko Min tellini ko e maccudo Amen ngadde simoore yeru hembra noddee seedeeji mon ko aldah e Alla si on ngonii goondube.} [Al Baqara 23]

Alquraana teddufo o kaawis gooto keddiifo e kaawisaaji Annabaabe haa hannde, nde Alla timminani Nulaado diine, o yottini mbo no haaniri nih, Nulaado sankii hombo yaara e duubi 63, O suuraa to Madiina, yo kisal won e Mum.

Ko Nulaado woni timmoode Annabaabe e Nulaabe, Alla daali:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: 40]

{Muhammadu wonaani baabiraado hay gooto e mon, ko woni ko O Nelaado Alla ko O tiimorde Annabaabe, Alla wonii te O seeraani wonde gannda kala huunde...} [Al Ahjaab 4040]

Eggaama e Abuu Hurayrah (yo Alla wele mo), wonnde Nulaado Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki :yeru am e Annabaabe adiibe ko hono gorko mahdo galle o moyyini mbo o labini mbo,si wonah tuufeere wootere e jookdu galle he, yimbe na sera mamambo e

haaweede mbo,hobe wi*a hol ko hadi ndee tuufeere wafe? O maaki ko miin woni woni tuufeere nde,ko miin woni timmorde Annabaabe.Sahiih Bukaari.E nder Injiil Masiih wii hombo weltina arde Nulaado Muhamadu yo o his:Haayre nde mahoobe calii nde, ko kayre woni hoore jookdu ndu, mbela on njanggaani e defte: Yasuu maakibe ummaade ka Joomiraawo dum woniina ko haawnii e gite amen. e deftere tawreetat woodaande jooni nde, jolii heen konngol Alla wonan de Muusa yo o his: (ma Mi darnabe Nulaado e hakkunde musibbe hono ma Mi wafa haala Am e hunduko makko he,o haalda e mum en kala ko mbasayii mbo)Muhamadu yo o his Alla nelirii mbo peewal e diine goonga, Alla seedanii mbo wonde ko e goonga o woni, O nelii mbo faade e Makko e yamiroore Makko Alla daali:

﴿كِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ ۗ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا

[النساء: 166]

{Kono Alla na seedoo ko o tellini ko e maa, O tellini dum ko e ganndal makko, e malaykaaji dii na ceedoo Alla yonii seede..} [Annisaa: 166]

Alla daali:

﴿هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ [الفتح: 28]

{ko kamko nuli nulaado makko e peewal e diine goonga ngam O fawa mbo e diineeki Alla yonii seede.}[Al Fathi :28]

Alla nelirii mbo peewal sabi o yaltina aade en e niɓbe sanamuuji e keefeeru e majjere faade e annoore tawhiid e Iimaan Alla daali:

﴿یُهٰدِیْ بِهٖ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۗ وَیُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلٰى النُّوْرِ

بِاِذْنِهٖ وَیُهٰدِیْهِمْ اِلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿٣٦﴾ [المائدة: 16]

{Hombo feewnira nde oon dewdo weluya Makko laabi kisal O yaltinabe e nibbe faade e annoore e sakkitoore makko e feewnabe e laawol poothingol.} [Al Maaida :16]

Alla daali:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾﴾ [إبراهيم: 1]

{Alif Laam Raa deftere nde Min tellini e maa ko ngam njaltinaa yimbe be e nibbe faade e annoore e sakkitoore Joomi mum en faade e laawol teddudo Jettaado O.} [Ibraahiim: 1]

26. Sariya Islaam mbo Muhamadu addi o, kambo woni timmorde nele Alliyankooje e sariyaaji Joomiraawo, ko kambo woni sariya timmal ko hembo woni moy'ere diine aade en e aduna mum en, hombo reena e daraja gadana: diineeji, y'iye, jawle, hakkillaaji e jeol yimbe, ko kammba firti sariyaaji gadiidi hono no diin pirtirnoo yogo e majji.

Sariya islaam mbo Muhamadu addi o woni timmoode nele Alliyankooje e sariyaaji ummiidi ka Joomiraawo, ko e mammba Alla timminiri diin, neema timmi e dow yimbe nde Muhamadu yo jam e kisal won e mum nulaa e mum en Alla daali:

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا... ﴿٣﴾﴾ [المائدة: 3]

{...Hannde timminan Mi mon diine mon kempinan Mi on neema am, mbelanaa Mi mon Islaam diine....} [Al Maa*ida :3]

Sariya islaam woni sariya timmal e moy'ere diine aade en e aduna mum en, sabu hombo renndini ko wonnoo ko sariyaaji ado di, kambo buri timmude, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾﴾ [الإسراء: 9]

{pellet o Alquraana na feewna faade ko b'uyuri fooccaade hombo weltina juulbe gollube ko lobbi na woodaniibe njobdi mawndi} [Al Israa:9]

Sariya Islaam ittii cadeele yimbe gonnoode e dente gadiide de,Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157]

{ Rewatnoobe Nulaad o Annabi mboobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko moyyoi O hadabe ko boni O dagnanabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinabe cadeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Aaraaf: 157]

Sariya Islaam woni ittudo denndaangal sariyaaji gadiidi dīi, Alla daali:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]

{ Min tellini e Ma deftere nde e goonga honde goongini defte gon de e yeesande , honde hiilndi e mum, ̣aawir hakkunde mabbe ko Alla tellini ko wota a rew e belaade mabbe gaa ko ari ko e Ma e goonga, gooto fof Min wadani mbo sariya e laawol, si Alla welanooma O waday on leool gootol, kono tan ko haa O jariboo on ndadandire e golle moyye, ko faade e Alla woni ruttorde Mon onon fof, O habra mon ko wonnodon luurude ko e mum..} [Al Maa*ida: 48].

Alquraana tedduo o na soomi sariya, mbo ari ko hombo goondini ko adii mbo e defte Alliyankooje, ko kammbo woni ̣aawoowo e majje nuski de.

27. Alla ceniido O jabatah ko wonah diine islaam mbo Nulaado Muhamed addi o yo jam e kisal won e mum, kala nantiido e diine mbo wonah islaam o jabantaake.

Alla ceniido O jabatah ko wonah diine islaam mbo Nulaado Muhamed addi o yo jam e kisal won e mum, kala nantiido e diine mbo wonah islaam o jabantaake. Alla daali:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [العمران: 85]

{ Kala dabbirdo ko wonah islaam diine o jabantaake e mum tonto laakira ko e pertube o jeyete } [Aali Imraan: 85].

Alla daali:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19]

{ } Pellet diine ka Alla to diine islaam, yeddandiraani jomen defte en si wonah caggal nde ganndal ari e mum en bewre hakkunde mum en be luuri, kala jeddudo aayeeje Alla pellet Alla ko jaawdo hisaab..} [Aali Imraan: 19]

O Islaam woni laawol Annabi Ibraahiima yo jam kisal won e dow mum Alla daali:

﴿وَمَنْ يَرْغُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا لَهُ فِي

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]

{ Alaa duurnotoodo (calotoodo) diine Ibrahiima sonaa mbo fittaandu mum daayi nganndee Min cubiima mo e aduna kanko o jeyaa ko e moyyube to laakara.} [Al Baqara : 130].

Alla daali:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]

{ Alah burdo moyyude diine wonannde oon jebbildo yeesa Alla tawa hombo moyyini o rewi diine Ibraahiima oo'iima gah kala majjere, Alla jaggarii Ibraahiima Sehil } [Annisaa*i: 125].

Alla daali Hombo yamira Nulaado makko Muhamadu yo o his yo O maaku:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ [الأنعام: 161]

{ Maaku pellet Joom am feewnii kam e laawol poothingol diine pooccoowo diine Ibraahiima oo'iido gah gah mehre e fenaande,O jeyanooka e sirkoobe ben } [Al Anaam: 161].

28. Alquraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado muhamed yo o his, konde haala Joomiraawo ronkinnde aade en e jinnaaji ndebe addata hono makka wolla simoore waande e mum, haa jooni na ronkaa,al quraana noon na jaaboo naamne kimmude keewde weemnunoije miliyonji yimbe,al quraana o na reena haa hannde e demngal arab ngal mbo telli e mum ustaaka heen hay harfeere, honde muula defte kaande janngeede, wollo janngude ko eggaa e maanaaji mayre faade e demde goo, ko noon kadi sunna nelaado o e siira makko na reena na egga fotde no habroobe hoolaabe kabriri nih, hombo muulaa e demngal arab ngal nulaado haalatnoon mbo eggaa faade e demde keewde, alquraana e sunna, ngoni yaltirde wootere wonan de awooje sariya islaam, sariya islaal nanngetaake e pirlitale aade en askintinatoobe e hembo, kono sariya nanngirtee ko e wahyu Alliyanke: AlQuraana e Sunna Nulaado.

AlQuraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado mum muhamed yo jam kisal won e mum, tawa ko e demngal arab, ko ngaal woni haala Jom binnde, Alla daali:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: 192-195]

{ Kannde dee pellet konde jippinaande ummorde to Jom binnde (162) Jippininde ko Ruuhu koolaado On (193) E bernde Ma ngam ngona e jeertinoobe (194) E demngal arabiyankeewal laabngal. (195)} [Assu*araa: 192-195].

Alla daali:

﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾﴾ [النمل: 6]

{ E pellet, an hida lonnginee Alqur'aanaare nden immorde kaeo Anndufo. } [Annamli: 6]

O doo Alquraana ko tellinaado ummorde ka Alla, kombo goondindo ko adii mbo e defte, Alla daali:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾﴾ [يونس: 37]

{ O Alquraana mbo wonah pekinteedo ko aldah e Alla, kono kay kombo goondindo ko adii mbo ko e defte, fencitde deftere nde sikke alah e mayre ummorde ka Joomiraawo. } [Yuunis :37]

AlQuraana teddufo o fencita ko buri heewde fiyakuuji di yahuud en luuruno e Annasaara en e nder diine mabbe, Alla daali:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾﴾ [النمل: 76]

{ Pellet o alquraana na daara e banii Israa*iil en ko buri heewde kobe luutrunoo ko } [Annamli: 76].

AlQuraana teddufo o na soomi dallillaaji e burhaanji immindi hujja e dow yimbe hee fof fii anndude haqiiqaaji jowitiidi e Alla ceniido e diine Makko e njobdi Makko, Alla daali:

﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الزمر: 27]

{ wollahi Men piyanii yimbe ben,e ndee Alqur'aan, kala misal,belajo'o, be waajitora } [Ajjumur: 27]

Toowdo On daali:

﴿...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [النحل: 89]

{ Min tellini e dow maa deftere feinde kala huunde e peewal e yurmeende weltaare woodani juulbe be } [Annahli : 89]

ALQuraan teddufo o na jaaboo naamne buy himmude heewde beemnude miliynji yimbe, alquraana na hollira hono Alla tagiri kammuuji e leydi, O daali:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفْلا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: 30]

{ Mbele heefereebe be yi*aani won de kammuuji e leydi ndii ngonno ko takkonsirdi, Min takkatidi, Min mbaɗi ummmaade ndiyam kala huunde wuurnde, mbele be ngoondintah? } [Al Anbiyaa :30]

Hono Alla tagiri neddo, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّظْفَةٍ ثُمَّ

مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَّبِيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى

أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى

أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: 5]

{ Eehey mon yimbe si on cikktiima ummital pellet ko Minen tagii mon e leydi refti Min mbaɗi mon tobbe refti Min mbaɗi mon heddere refti Min mbaɗi mon husere timmunde tagoore e nde timmaani tagoore ngam Min banngina on,Min ̣iibna e ranngaaji ko Min kaaji haa e lajal kappaado refti Min njaltina mon suko refti njottadono satteende mon, ina e mon sankatoobe ina e mon ruttateebe e nguurndam burɗam jaasde haa o waasa anndude caggal duum hay huunde,haɗa yi*a leydi ndi hondi woni maayndi so Min telliinii e mayri ndiyam ndi dilla ndi fuufa puɗi ndi fudna e kala teeltungel lobbel } [Al Hajji: 5]

ko hoto woni battane makko, holko woni njobdi bonnudo e peewnudo caggal dam nguurndam ? daliilaaji ko faati dam nguurndam jantanooma e tonngoode(20) mbele goodal

aduna ko nih tan ardi wolla hongal jogii faandaare teddunde
?Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ
يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbele be ndaaraani nguu laamu teddungu nder
kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde
lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be
ngoondinta } [Al Aaraaf: 185]

Alla daali:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

{ Mbele on cikku ko fijirde wadi tagmi mon, mbela mbela on
cikku pellet on nduttataako e Amen } [Al Muuminuun : 115].

AlQuraana teddufo o na reena haa hannnde e demngal
mbo tellarii ngal, Alla daali:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]

{ Ko Minen tellini Alquraana ko Minen reenata mbo } [Al
Hijri :9]

Hay harfeere wootere ustaaki e mamba, na jommbi nde
yanata e mamba beandiral ma baylagol, Alla daali:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]

{ Mbele be teskataako Aluraana, sinde ummino ka wonah
Alla mabe taw e mayre luural keewngal. } [Annisa: 82].

Kombo muulaad o mbo saraa, kombo deftere teddunde,
ronkinde haannde janngede wolla hettede maa janngude
maana mayre eggaande faade e demde goo, ko hono noon
sunn nulaado Muhamed yo o his, e siira mum deenaado o
egga fotde no habroobe hoolaabe eggiri, kombo muulaado e
demngal arab ngal Nulaado haalatnoo, hombo eggaa faade e

demde keewde,al quraana teddufo o e sunna Nulaado ngoni iwirde wootere wonande nyaawooje islaam e sariyaajim, islaam nanngirtaake pirlitale yimbe askintoobe e mammba, kono islaam nanngirtee ko: Wahyu deenaado o, oon woni alquraana e sunna Annabiyanke, Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾ [فصلت: 41-42]

{ Pellet been yeddube alquraana nde mbo ari e mum en, pellet konde deftere teddunde, meere aratah e mayre wonah yeesa mayre maa caggal mayre, konde tellinaande ummorde ee a jettaado..} [Fussilat :41-42]

Alla daali ko faati e sunna Annabiyanke wonde kombo wahyu ummorde ka Alla:

﴿...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾ [الحشر: 7]

[Ko Nulaado addani on nanngee dum, ko o hadi on ngaccee, kulee Alla sabu ko O cattudo lepte.} [Al Hasri : 7].

29. Islaam na yamira diggan de e jipnaabe hay sibe ngonah juulbe e wasiyanaade sukaabe.

Islaam na yamira moyyande jipnaabe, Alla daali:

﴿* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإسراء: 23]

{ Alla aawi nde on ndewatah si wonah Makko, moyyon e jipnaabe, si gooto e mum en naywii wollo kambe dido fof woto wiibe uf woto wiib eh haalanbe haala tedduka.} [Al Israa: 23]

Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾﴾ [لقمان: 14]

{ Min mbasoyiimo neddo jipnaabe mum yummakko saawi mbo e lohre e dow lohre,e enteede makko woni e nde duubi didi,nde njettataa Mi e jipnaabe ko e Am de woni wattindorde. } [Luqmaan : 14].

Alla daali:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ

إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [الأحقاف: 15]

{ Min mbasayii neddo yo moy'yu e jipnaabe mum, yumma makko saawii mbo e tampere o jibini mbo e tampere,caawgol makko e entugol makko ko lebbi 30,haa nde o yottii cemmbe makko o yottii capande nayi hitaande,o wii Joom am lonngin am nde njettat mi dokkema Maa de ndokkuda e dow am e jipnaabe am e nde ngollat mi golle mojje belatde Ma peewnanaa mi ge'ol am, mi tuubii tigi faade Ma pellet ko e juulbe njeyaa mi } [Al Ahqaaf: 15]

Ummiima e Abuu Hurayrata yo welu Alla won e maako, o wii: Gorko arii Nulaado o wii : Nulaado hombo potmi burde mojjinande gon digal? O wii: neene ma, o wii e hombo? O maaki : neene ma, o wii refti hombo? O maaki: neene ma, o wii refti e hombo ? O maaki : Baaba ma.Sahiih Muslim.

Ngol jamirgol wasiyanaade jipnaabe foti kobe juulbe wolla ngonah.Ummaade e Asmaa biy Abuu Bakri o wii:(Neene am arii hombo woni cirkoowo e yonta Quraysi en e aadi mum en tuma ndebe aadandirnoo Annabi yo o his, hombo wondi e biddo makko,naamniimi Nulaado mbiimi:Neene am arii

hombo reerdi, mbela mi jokka mbo? O maaki eey jokku neene ma). Sahiih Buhaari. Haysi jipnaabe be tampii etaade waylude suko o ummaade e islaam faade e keefeeru, Islaam na yamira nde o waasata doftaade be o jokko goondinde Alla o diggana be, o wonda e mum en gondigal lobbal, Alla daali:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: 15]

{ Si be tiidnorii ma fii sirkangol Lam e ko a alanaa dum ganddal, wata a dofto be; wonndir e mabbe ka aduna doo moy'ere. Jokku laawol on ruttii do e Am. Refti ko ka Am woni ruttorde mon, Mi yeetitoo on, ko gollaynodon.} [Luqmaan : 15]

.Islaam hadatah juuldo nde o digganta badiibe mbo sirkube, wolla be ngonah badiibe tawde be ngonah habdiibe makko, Alla daali:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: 8]

{ Alla hadaani mon be kabaani e mon be e diine be njaltinaani mon galleeji mon, nde diggantobe nuundon faade e mum en, pellet Alla na yidi nuundu be. } [Al Mumtahina: 8]

Islaam na yamira wasiyanaade bibbe furi mawnude ko islaam yamirta jipnaado ko nde o jannginta bibbe mum hakkeji Joom mum en hono no Nulaado mo jam e kisal maakiri biy baaba makko Abdullaahi Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko: Eey suko wolla aan cukalel mbele mi anndintaama konngudi di Alla nafirat ma? Mbiimi eey kay. O maaki: reen Alla, Alla reen ma, reen Alla tawaa Mbo yeesa ma, anndu Alla saanga neema, Alla wallu ma saanga sattuende, si a toriima toro Alla, si a wallaniima wallina Alla. Ko Ahmad fillii mbo 4/287. Alla yamiri jipnaabe ndebe

nganndinta bibbe mum en ko nafatabe e fiyaaku diine mum en e aduna maɓbe Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]

{ Eehey mon goondinbe ndeene ko*e mon e koreeji mon e yiite docate manng'e ko yimbe e kaaye ina e dow henge malaykaaji tekkudi cattudi di ngoopatah ko Alla yamaridi te hodi ngolla ko Alla yamiridi. } [Simoore Attahriim: 6]

Ummaade e Aliyyi yo weluya Alla won e Makko e konngol Alla: Ndeene ko*e mon e koreeji mon e yiite. O wii : Ne*eebe njanngineebe. Nulaado mo jam e kisal woni e dow mum yamiri nde jiknaado jannginta biy makko juulde, ngam o nehoo heen, Nulaado maaki: Njamiree bibbe mon juulde sobe njottiima duubi jeedi: Abu Daawuud. Be maaki kadi: Onon fof ko on aynaabe, onon fof ko on naamnitteebe, Imaam ko gaynaako, te ko naamnitteedo ngaynateeri makko, gorko ko gaynaako e galle mum, ko naamnitteedo ngaynateeri makko, debbo ko gaynaako e suudu jom galle makko, ko o naamnitteedo, ko o aynatno ko, liggatoodo ko gaynaako e jawdi kiliifa makko, ko naamnitteedo ko o ayninaa ko, onon fof ko on aynaabe te ko on naamnitteebe ko ngayninadon ko. Sahiih Ibnu habbaan 4490.

Islaam yamarii jipnaado nde o nafqata bibbe makko e mbootu makko, en jantinooma dum e tonngoode(18) Nulaado yo O his holliti bural nafqude bibbe O maaki: Diinaar burdo labeede woni diinaar mbo gorko nafqi mbootu mum, e diinaar mbo o nafqi e daaba mum e laawol Alla e mbo nafqi e wondiibe mum e laawol Alla. Abu Qillaba wii: o adariima mbootu makko, refti Abu Qilaada wii: alah burdo gorko nafqoowo e mbootu mum tokooso njobdi Alla nafabe e duum e yondinabe. Sahiih Bukhaari 994

30. Islaam na yamira nuundal to banng e bolle e kuude hasindo ko won dude a'be.

Alla ceniido O na sifarii nuundal e golle mum e jiilgol mum hakkunde jiyaa'be mum, O woni ko e laawol peewngol ko O yamiri ko e ko O hadi ko, e ko O tagi ko e ko O hoddiri ko Alla daali:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18]

{ Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal, deweteedo alah si wonah kamko, kamko woni pooldo mbo fooletaake ee'dudo.} [Aali Imraan: 18]

Alla na yamira nuundal, O daali:

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ... ﴾ [الأعراف: 29]

[Maaku joom am yamarii nuundal] [Al Aaraaf: 29]

La Nabiyaam-rāmbāfāa la Tēn-tuumbā -puusg la tulgrbe b yīnga- b waa ne tēeg turga, Wēnd yeelame A Naam zēkyā:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ... ﴾ [الحديد: 25]

{ wollahi tigi Min neliri Nulaabe amen banngudi, Min tellini e mum en deftere e peesirde ngam yimbe be ndarna nuundal.} [Al Hadiid: 25]

Peesirgal woni nuundal e konngi e golle. Islaam na yamira nuundal to bolle e golle hay si ko wondude e a'uybe, Alla daali:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا

أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135]

{ Eehey mon goondibe ngonee darantoobe nuundal seedatoobe sibi Alla hay si wonii e dow ko* e mon wolla e dow

jipnaabe wolla badiibe mon, si o wonii gala wolla baasdo ko Alla buri haandude e mum en, wotee ndewee belaade haa mbaason nuundude, si on karlii maa duurnidon, ngannde pellet Alla na humpatti ko ngollaton ko} [Annisaa : 135]

Alla daali:

﴿...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

{ Woto nganngu yimbe faliibe gaa e masiide Alla hormaande nde haf mon nuundude, mballandiree e diggere e kulol Alla, woto mballandiree e bakkaat e ngaangu, kulee Alla, pellet Alla ko cattudo lepte.} [Al Maa*ida: 2].

Alla daali:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 8]

{ Eehey mon goondinbe ngonee daraniibe Alla seediriibe nuundal, woto aude yimbe duu mon nde mbaasaton nuundude, nuunde ko duum buri badaade kulol Alla} [Al Maa*ida : 8]

Mbela ada tawa laabi yimbe ma e diineeji mum en hono ngol jamirgol seedaade goongo e haalde goongo hay si wonii e dow fittaandu ma wolla jipnaabe ma maa boom baddibe ma, yamirde nuundal wondude e ga'a wolla e gidu. Nulaado yo jam e kisa won e mum na yamira nuundal hakkunde sukaaabe. Ummiima e Aamir o wii: Mi nanii Nuumaan Ibnu Bassir yo weluya Alla won e mum en, hombo woni e minbar, hombo wiya: Baaba am okkii lan dokkal, Amarata Bint Rawaahata wii: mi weletaake haa ceetna Nulaado, o ari e Nulaado wii: mi okkii biy am e Amarata Bint Rawaahata dokkale, o wii yomi ceetnuma mi aan Nulaado owii: (A okki

bibbe ma fof hona dum?)O wii:alah Nulaado maaki:(Kulee Alla nuundee hakkune bibbe mon)O wii:o rutti dokkal makko ngal.Sahiih Bukhaari 2587.

Wadi noon ko fiyakuuji aade e dowlaaji ndarataaka si wonah e nuundal, hoolaare hebetaake wonande yimbe e diine mum en, yiyam mum en, geol mum en, jawle mum en e kodorde mum en si wonah e nuundal, ko dum nde heeferbe makka tampini juulbe, Nulaado yamaribe yobe per faade Habasa, sabu na woodi toon Laamdo nuundudo mbo hay gooto toonyetaake e leydi makko hee.

31. Islaam na yamira labbinde faade tagu nguu fof, na nodda faade jikkuuji laabdi, e golle laabde.

Islaam na yamira moyyande jiknaabe, Alla daali:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ. ﴾ [النحل: 90]

{ Pellet Alla na yamira nuundal e moyyinde e tottude e okkude badiido....} [Annahli: 90]

Alla daali:

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134]

[Nafqoobe saango yaajeende e saango bittere moftoobe tikkere, yaafatoobe yimbe be, Alla de na yidi moyyinoobe.} [Aali Imraan: 134].

Annabiijo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki:« Allaahu On Farlii moyyere e dow kala huunde. Si on waray moyyinee warugol ngol. Si on hirsay moyyinee hirsugol ngol. Yo gooto e mo'on welnu labi makko ki o fooftina ko o hirsata kon ».Sahiih Muslim 1955.Islaam na nodda faade e jikkuuji labaadi e golle labaade, Alla daali e sifaadse Nulaado yo jam e kisal ngon e makko:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157]

{ Rewatnoobe Nulaad o Annabi mboobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko lobbi O hadabe ko boni O dagnabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinanabe cadeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Aaraaf: 157]

Be maaki kadi:Aan Aaysa Alla ko newiido hombo yidi newaare, hombo okkira newaare ko O okkirtah e aadre e ko okkirtah ko wonah duum.Sahiih Muslim 2593.

Be maaki kadi:Alla harmanii e mon : salanaade yummiraabe e ubbude jiwbe tawa na nguuri, O hadi on kaari wii kaarii wii, e heewde naamni e yeebaade jawdi.Sahiih Bukhaari 2408.

Be maaki kadi:On naatatah Aljanna haa goondinon, on goondintah haa njidandiron, mbele Mi tinndintah mon huunde si on mbadiinde njidondiron? caree salminaandu hakkunde mon.Sahiih Muslim 54

32. Islaam na yamira jikkuuji jettaadi hono goondude e tottirde hoolaare e nefde ko boni e hersude e jaambaraagal e tottirde e teddungal,e wallude katajindo,e faabaade tampudo,e amminde keydufo,e mojjiiin de koddigal e jokkude endam e yurmaade kulle.

Islaam na yamira jikkuuji labaaadi, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Neldaa Mi tigi ko ngam Mi timmina jikkuuji labaaadi.Sahiih Al Adab Al Mufraad 207.

Be maaki kadi:Pellet mbo burmi yidde e mon e burdomi badaade e jonnde ande darngo ko burdo labeede jikku, burdo tikkaneede e wofdude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min nganndii

sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiqun? O maaki ko: mawnikiniibe.Assilsilatu Assahiihatu 791.

Ummiima e Abdullaahi Ibnu Umara yo weluya Alla won e mum en, o wii: Annabi mo jam e kisal woni e mum, laatanooki jom pankare, o wonaana pankaridnoodo, Hombo maakatno: Ina jeyaa e burbe labeede burdo labeede jikku.Sahiih Bukhaari 3559.

E ko wonah dee aayeeje e jolole tinndinooje wonde islaam na hirjina e jikkuuji teddufi e golle labaade e mbaadi kuubtadinndi.Islaam na yamira goondude, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Mi wasiyiima mon goongo,sabu goonga na feewna e diggere diggere na feewna faade e aljanna, gorko seeratah goondo na faando goongo haa winnde to Alla goongiyanke.Sahiih Muslim 2607.

Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde hoolaare Alla daali:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾ [النساء: 58]

{Pellet Alla na yamira on nde tottirton hoolaareeji faade e jom mum en.} [Annisaa : 58]

Islaam na yamira nefde ko boni, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Tato na jojji e Alla walludebe: O inntii heen: desdo jidfo burnaade.Sunanu Attirmiiji 1655.

Ina jeyanoo e du*aa Makko yo jam e kisal won e mum:Aan Alla mbedfa toro Ma peewal e kulol Alla e tewaade bone e yondinaade.Sahiih Muslim 2721.

Islaam na yamira wonde kersoowo, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:Hersude ko jam tan addata.Sahiih Bukhaari 6117.

Be maaki kadi:Kala diine na jogii jikku, woni jikku islaam ko kersa.Ko Bayhaqi yaltani mbo nder su*abi Iimaan 6/2619.

Ina jeyaa ko islaam yamirta: Jaambaraagal, ittaama e Anas yo Alla wele mbo, o wii:Nulaado mo jam e kisal ngoni e

makko burnoo yimbe kay burnoobe suusde buribe wonde dokko, yimbe madiina paayiina, Nulaado woni gadiido e puccu.Sahiih Bukhaari 2820.

Nulaado hombo moolotono Alla e kulol reedu, hombo maakatno:Aan Alla mbida moolo Ma e kulol reedu.Sahiih Bukhaari 6374.

Na jeyaa e ko Islaam yamirta ko: Tottirde e teddungal, Alla daali:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ [البقرة: 261]

{Nafkoobe jawle mum en e laawol Alla mba*i kono abbere fudnunde butaali jeedifi kala heen wutaandu fof na soomi teemedere abbere, Alla na sowana Mbo O haajani, Alla ko jaacdo ganndal..} [Al Baqara : 261].

Jikku Nulaado wonno ko teddungal, ittaama e Ibnu Abbaas yo weluya Alla won e makko, o wii:Ko Nulaado burno yimbe be fuldude, ko e lewru koorko fof o burnoo won de dokko tuma nde Jibriil hawrata e Makko,Jibriil na hawratnoo e makko kala jemma ramadaan haa mbo huncoo,Nulaado aarnda mbo alquraana,si Jibriil hawrii e Makko hombo wonatno burdo kenal soy soy labeede.Sahiih Bukhaari 1902.

Na jeyaa ko islaam yamirta wallude katajindo e faabaade cattiraado e amminde keydufo e labinde koddigal e jokkude endam e newanaade kulle de.Ummiima e Abdullaay Ibnu Umar yo welu Alla won e mum en wonde gorko gooto naamniima Annabi mo jam e kisal woni e mon, o wii: Hombo islaamuuji di buri labeede ? O maaki: amminde aamdu calmaa mbo nganduda e mba a anndah.Sahiih Bukhaari 12.

Be maaki kadi:Gorko gooto na yahatno e laawol o domdi sanne, o hebi woyndu, o telli e hendu o yari refti o yalti, tawi rawaandu na toon na laha hondu aama lesdi sabu domka, gorko o wii: Ndu rawaandu ndu domdarii no domdirnoo mi,

o hebbini kuffu makko ndiyam, refti o nanngi e hunduko mayru, o yarni rawaandu ndu, Alla yetti mbo o yaafii mbo. Sahabaabe mbii emin jogii e kulle hee baraaaji? O maaki: eey, kala ko wadi hee urre heccere na wadi baraaaje .Sahiih Ibnu habbaan 544.

Be maaki kadi:Jahanoowo mbo jom galle mum maayi e miskiin wa*i kono badoowo jihaadi e laawo Alla wolla dariido juuloowo jemm e alawma.Sahiih Bukhaari 5353.

Islaal na teentina hakkeeki endam na waddina jokkude endam, Alla daaliã:

﴿التَّيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ [الأحزاب: 6]

{ Annabi buri haandude juulbe e pittaali mum en, suddiibe makko be ko yummiraabe mum en, jom en endam yogo e mum en buri haandude e yogo e deftere Alla hee gaa e juulbe e ferbe, si wonah de mbadanton heedbe mon moby/yere, dum laatiima na winndaa e deftere hee } [Al Ahjaab: 6]

O jeertini tayde endam O sinndindiri dum e bonannde e nder leydi hee, Alla daali:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٢﴾﴾ [محمد: 22-23]

{ Mbela si on nduntiima yaama bonnon e nder le leydi tay'on endam mon dam tay'on tay'on (22) Ko been ngoni be Alla hudi O fahdiniibe O wumni gite mum en (23)} [Muhamed: 22-23]

Nulaado yo o his maaki: (Naatah aljanna tay'oowo endam)Sahiih Bukhaari 2556.

Endemeeje de na foti reeneede : Jipnaabe e musibbe e banndiraabe rewbe e bappa en gorgilaabe e kaawiraabe e

yummiraabe sawndiibeIslaam na tentini hakke koddiiyo hay si o wonii keefeero, Alla daali:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]

{ Ndewee Alla wotee ndenndinee Mbo e hay goota, moy'ee e jipnaabe mon e badiibe mon e Alyatimeebe e miskineebe e koddiiyo badiidob e koddiiyo deestiido e gondiido sera am e datniido e jeyal juude mon, pellet Alla yidah yaayoowo basatoodo.} [Annisaa : 36].

Be maaki kadi:Jibriil seeraani na wasiyoo Mi koddiiyo haa cikku Mi ma ronnu mbo.Sahiih Abii Daawuud 5152.

33. Islaam dagnii laabdi e ʾaamdu e njaram, o yamiri labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii O dagni dewgal hono O yamirirnoo Annabaabe yo be kis, hobe njmiratnoo ko labaa.

Islaam na ʾaamdu e njaram laabaadi, Nulaado yo jam e kisal won e mum maaki:« Alla ko Laabdo Mo Jabataa si wanaa laabu-dum. Allaahu On Yamirii muumini en kon ko O Yamiri Nulaabe ben O Daali:

(Ko onon yo Nulaabe, ʾaamee laabudi din gollon [golle] moy'ee).[Al Mu'minuun: 51].

O Daali kadi:

(Ko onon yo muumini en, ʾaamee immorde e laabudi di Men Arsiki on) ». [Al Baqarati: 172].

Abuu Hurayrah beyditi:Hooti Nulaado on janntii gorko juutinaynoodo datngal, sirnganiido punndudo ; mo no forta juude mun ka asamaanu o wi'a: Ko an yo Joomam, ko an yo Jomam. Tawa non ʾaamete makko on ko harmudo, njaram makko dam ko harmudam, comci makko din ko harmudi, o ne'iraama ko harmi, hol no oo doo jaabinirantee ?Sahiih Muslim 1015.

Alla daali :

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32]

{ Maaku ko hombo harmini cudaari Alla wonande jiyaabe Makko e dagiidi e arsuka, maaku diin ko fii been gondinbe e nguurndam aduna laabtudi nande darnga, ko hono nih Min pirtirta aayeeje wonande yimbe anndube”} [Al Aaraaf: 32]

Islaam yamarii labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii mbo dagni dewgal, hono no mbo yamiriri Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kambe hoƙe njamira ko moyyi, Alla daali:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِئَعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: 72]

{ Alla wadani on ummaade e ko*e mon kube O wadani on e kube mon hee sukaabe e njaatiraabe O yedi on dagiidi mbela ko meere gondinton e dokke Alla dii njeddaton } [Annahli: 72]

Alla daali:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهَّرَ وَالرُّجْزَ فَاهْبُجْرُ﴾ [المدثر: 4-5]

{ E comci Ma labbin (4) Fer goopi baddinooji lepte (5)} [Al Mudassir: 4-5]

Be maaki kadi:Naatatah aljanna mbo gabbel fotde jarra e mawnakinaare woni e bernde mum, gorko gooto wii: Gorko na faalee nde comci mum e pade mum ngonata labaade, O maaki Alla ko joodfo ko jidfo njoodndam, mawnakinaare ko yeddude goonga e yawaade yimbe.Sahiih Muslim 91.

34. Islaam harmanii lasliiji karminaadfi hono sirku,keefaraagu,rewde sanamuuji,haalde e Alla ko a anndah,warde sukaabe,warde fittaandu harmundu warde,bonnude e nder leydi,mbilewu,pankare banngude e ko wirnii, jinaa,e golle luuti en? O harmini riba,e nyaamde jiiba e ko hirsanaa sanamuuji,O harmini ̣aamde mbabba tugal e tuundiiji e sobeeji,O harmini ̣aamde jawdi alyatiime, e ustude peese e betu,O harmi tayde endam. Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harmude ḍii kadaafi.

Islaam na harmini asli karminaadfi hono renndinde Alla e tanah Makko, keefereegal, rewde sanamuuji e haalde e Alla ko a anndah e warde sukaabe, Alla daali:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151-152]

{ Maaku:"Aree mi jannana on ko Joom mon Harmini e mon:ko nde kafidoton e Makko huunde wadanon jibimbe mon ben moy'ere wota on mbar bidbe mon be sabu kulol immorde e baasal.Ko Minen Arsikata on e kambe.Wata on badto pankare den ko fee'i e majje e ko wirnii.Wata mbar fittaandu ndu Alla Harmini si wanaa e goonga.Ko dum moodon O wasiyii on belajoo,on haqqilay(151) Wata on badto jawdi alyatiimi si wanaa taw ko no buri moy'irde, haa o yottoo kellefuyee makko. Timminiree betirde den e manndikirde (peesirde) no nundiri. Min pawata fittaandu si wanaa ko ndu hattanata. Si on kaala nundee hay si ko e hoore jom-badtotal. Ahadi Alla ndin hunnon. Ko dum moodon woni ko O Wasiyii on; belajo'o, on annditay.(152)} [Al An*aam: 151-152]

Alla daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]

{Maaku Alla harmini ko pankare ko fee'i heen e ko wirnii e bakkaat e bewre ko aldah e goonga e nde ndennditon Alla ko O tellinaani e mum daliil e de kaalaton Alla ko on ganndah} [Al Aaraaf: 33].

Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]

{Wote mbare wofittaandu ndu Allah harmini [warugol],si wonaa sabu hakkee.Mo too'aama waraama, Men wadanii heedube e makko ben doole wota non o fantin ka warugol.Pellet Kanko o wonii wallaado.} [Al Israa: 33].

Alla daali:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68]

{e been be noddatah wondude e Alla deweteedo goo be mbaratah fittaandu ndu Alla harmini yo ndu ware si wonah goonga be njinatah, kala badda duum heba bakkaat..} [Al Furqaan: 68]

Islaam harmini warde fittaandu hormaandu, Alla daali:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...﴾ [الأعراف: 56]

{wotee mbonne leydi caggal moy'inde ndi.} [Al Aaraaf: 56]

Alla daali hombo habra gaa e Annabi Su*aybu yo kisal won e Makko:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [الأعراف: 85]

{ Eey mon yimbe am on alah deweteedo mbo wonah makko arii e mon ko banngudi ummorde ka Joom mon timminee betu e peese wotee ustanee yimbe be gede mabbe woto on mbonnu e nder leydi he caggal ndendi feewnaa ko duum buri moyʼannde on si on laatiima goondin be} [Al Aaraaf: 85]].

Islaam harmini mbilewu, Alla daali:

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ
 أَتَى ﴿٦٩﴾﴾ [طه: 69]

{Bugo ko woni kon ka ʼaamo maada dum moday ko be moyʼini kon, pellet, ko be moyʼini kon ko pewje mbile bileejo on maletaake nukku woo ka o ardi.} [Taahaa : 69]

Be maaki kadi:Ndeentee jeedifi kalkooji, be wii : Aan hodi woni diin? O maaki : Sirkande Alla, mbilewu, warde fittaandu hormaandu ko aldah e goongo, ʼaamde ribaa, ʼaamde jawdi alyatiime, dogde ʼande jihaadi e takkude juulbe rewbe goondinbe welsandiibe kobe takkaa ko.Sahiih Bukhaari 6857.

Islaam harmini pankare banngudi e wirniidi e jinaa e luutiyankeegal, dum jantanooma ko adii e huunde ko aayeeje jantii holli wonde islaam harmanii riba, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: 278-279]

{Eehey mon goondinbe kulee Alla accon ko heddi ko e riba si wonii ko on muuminiina (278) Si on wadaani kollliree

hare ummaade e Alla e Nulaado mum, si on tuubii woodanii ko*e jawdi mon on too'atah on too'etaake. (279)} [Al Baqara :278, 279]

Alla sappariraani jom goopol hare hono no O sappirani jom riba,sabu riba na soomi yirbere galleeji e kodorde e jawle e pittaali.Islaam harmini' aamde jiiba e ko hirsira sanam e ko nanndi heen O harmini' aamde teew mbabba ngirja, Alla daali:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ...﴾ [المائدة: 3]

{Harminaama e mon jiiba e y'iyy'am e teew mbabba tugal e ko daknara ko wonah Alla e deddingol e lukkangol janngol ummorde dow e juwangol e ngol pony'i' aami si wonah ngol kirsudon e kirsangol e sanam e nde dabbirton njeɗu ngennduko Ajlaam duum ko faasiqaagal} [Al Maa*ida :3]

Islaam na harmini yarde sanngara e denndaangal sobeeji e tuundiiji, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]

{Eehey mon goondinbe pellet sanngara e wure kaay'e debe ndarnatnoo sara Kaaba e ngenndu- won ko sobe ko e golle seytaane jeya ndeenee dum ngam maledon (90) Pellet seyataane faalaa ko libde hakkunde mon nga'ngu e tikkere nder sangara e wure o faddoo mon e jantaade Alla e juulde, mbela hodon kadto? (91)} [Al Maa*ida :90, 91].

Soggaama e tonngoode (31) jantagol kabrugol Alla sifaaji Nulaado mo jam e kisal woni e mum nder Tawreeta wonde hombo harmini e mum en sobeeji, Alla daali:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...﴾ [الأعراف: 157]

{Rewatnoobe Nulaad o Annabi mboobe tawatnoo na winndaa to mum en ka Tawraata e Injiil hombo yamirabe ko mojjii O hadabe ko boni O dagnabe ko laabi O harminanabe ko tunwi O tellinabe cadeele mum en e tonngi mum en gonnoodi e mumen, been goondinbe mbo noon be cemmbini mbo be mballi mbo be ndewi annore nde Min tellini, been ngoni malaabe be} [Al Aaraaf: 157]].

Islaam harmini aamde jawdi alyatiima, Alla daali:

﴿وَأَمْوَالُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]

{Totte alyatimeebe jawle mum en wotee ngostore ko sobi laabdum, wotee aamee jawle mum en faade e jawle mon, pellet duum woniino bakkaat mawdo} [Annisaa: 2]

Alla daali:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]

{been aamroobe jawdi alyatimeebe dow too ange, pellet kobe aamata ko e deedi mum en ko yiite, mabe ka yiite hubboowe} [Annisa : 10]

.Islaam harmini ustude peese e betu, Alla daali:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَىٰ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَّوَهُمْ

يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 4-1]

{Halkaare woodanii ustoobe peese e betu (1) been betnatoobe e yimbe be dabba timminaneede (2) Sibe betaniibe wolla be peesaniibe be usta (3) Rē Mbela been

cikkaani mabe ummine^o alngu darnga (4)} [Al Mudaffi'in :1-4]

Islaam na harmini kadi tayde endameeje dum jantaama ko adii e tonngoode 31 e aayeeje e hadisaaji tinndinooji duum, Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harminde dui karminaadi.

35. Islaam na hada jikkuuji bondi hono fenaande e fuuntude e janfaade, hodaade, njanfa, haasidaagal, hodo bonngo, nguyko bewre e too^oange e kala huunde sobnde.

Islaam na hada jikkuuji bondi e mbaadi kuubtadinndi, Alla daali:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾

[لقمان: 18]

{Wata fal yimbe ben yeeso maa ngon, wata a yahru ka leydi aayagol. Pellet, Alla yidaa kala aayotoodo mantoo} [Luqmaan : 18]

Be maaki kadi: Pellet mbo burmi yidde e mon e burdomi badaade e jonnde^o ande darngo ko burdo labeede jikku, burdo tikkaneede e woddude jonde e Am ko heewbe haala e hebbinbe gabbude e mawnikiniibe, be min nganndii sarsaarin e mutashaddiquun hol ko woni mutafayhiqun? O maaki ko: mawnikiniibe. fAssilsilatu Assahiiha 791. Islaam na hada fenaande, Alla daali.

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: 28]

{Alla feewnatah oon burtindo penoowo} [Gaafiri: 28].

Be maaki kadi: Ndeene fenaande sabu fenaande na nawma e faajiraagal faajiraagal na feewna e yiite, gorko seeratah na fena na faando fenaande haa o winnde ka Alla ko o penoowo. Sahiih Muslim 2607.

Be maaki kadi:Maande naafiqe ko tati: Si o yeewtii o fena, si o fodii o lunndo, si o hoolaama o janfoo.Sahiih Bukhaari 6095.

Islaam na hada fuuntude.Arii e hadiis wonde Nulaado Alla yo jam e kisal ngon e makko wirtiima gennduwel 00 aamde o naatni junngo makko e hengelleppeendi hebi pefeeli mum,o maaki:Ko dum woni jom 00 aamdu? o wii:Ko tobo hebindu aan nulaado Alla,O maaki:Ko hadmaa dum wadde e dow 00 aamdu he haa yimbe be nja*a dum,kala puuntudo amen jeyaaka e amen.Sahiih Muslim 102.

Islaam na hada hodo e njanfa, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[الأنفال: 27]

{Eehey mon goondinbe woto njanfada Alla e Nulaado njanfadon ko koolnadon mon tawa hodon nganndi} [Al Anfaal: 27]

O daali:

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: 20]

{ben hunnoobe ahadi Alla ndin, be firtataa ahodal(hoolaare).} [Arraad 20].

Nulaado mo jam e kisal woni na wiyatnoo konuuji Makko sidi njalta:Kone woto on pantin wotoo njanfee wotee muusnee wotee mbaree cuklel.Sahiih Muslim 1731.

Be maaki kadi:Gede nay mbofe ngoni e mum wona naafiqe laabtudo, kala mbo gootel e majji woni e mum, wona e mum gedel e naafiqaagal haa o acca ngel: Si o tottaama hoolaare o njanfo, si o yeewti, o fena, si tottii aadi o janfo, si o dukdaama o yawta keerol.Sahiih Bukhaari 34.

Islaam na hada haasidaagal, Alla daali:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ [النساء: 54]

{ Mbela be kaasidoto yimbe ko Alla okkibe ko e bural Makko, Min tottii Ibraahiima defre e ee al Min tottibe laamu mawngu..} [Annisa: 54]

Alla daali:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ

أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ [البقرة: 109]

{ yidii heewbe e yimbe defte en ndebe nduttata mon caggal nde ngoondin don ngonton heefereebe haasidaabe to bannge mum en caggal de googna fee ani on, njaafee njarladon haa Alla adda yamiroore Mum, pellet Alla ko kattando kala huunde } [Al Baqara: 109].

Be maaki kadi:Rubii faade e mon aw dente ngadiide: Haasidaagu,tikkere laboore mi wiyaani laboore sukundu kono ko laboore diine, Mi woondarii mbo fittaandu am woni e Junno Mum, on naatatah aljanna haa ngoondinon on ngoondintah haa njdandiron, mbela hafratah on ko tabitinanta mon duum? caaktee salminaandu hakkunde mon.Sunanu Attirmijji 2510.Islaam na hada hodaade, Alla daali:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ [الأنعام: 123]

{ Ko hono noon Min mbaði e kala wuro mawbe banndiiji manngo, haa be kodo e hengo, be kodotaako si wonah ko* e mum en kono be tinatah. } [Al Anaam : 123]

Alla habri wonde Yahuud en etinooma warde Masiih mo jam e kisal ngoni e Mum, be kodii kono Alla fewjanibe, Alla holliri wonde hodo bonngo ko e joom mum tan yanata, Alla daali:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُؤًا لِمَكَرِ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿٥٤﴾﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [آل عمران: 52-55]

{ Nde Iisaa so'unoo keeferaaku ngun e mabbe,o maaki:"Ko hommbo wallata lam e [diina] Alla [kan]?" .Hawaaruyan'ko'en wi'i:"Menen ko men walloobe [e diina] Alla [kan],men gomdinii Alla,seedo wonde ko men jebbiiliibe" (52) Joomi amen, men gomdinii ko jipindaa kon, men jokkii Nulaado on. Winndu men e seediibe ben (53) Be fewji Alla kadi fewji.Ko Alla 'Buri Moy'yude e fewjoobe ben (54) (Janto) nde Alla daalunoo:"Ko an yo Iisaa, Min ko mi hunnoowo ma e bamtoowo ma faade ka Am,e Labbinoowo ma e ben yeddube,(Mi) Wada ben jokkuba ma e hoore ben yeddube haa jalnde Darngal. Refti ko faade ka Am woni ruttorde mon,Mi aawa hakkunde mon ko luutondirayndon e muudum. (55)} [Aali Imraana: 52-55].

Alla habri wonde yimebe Annabi Saalihi faalanoomo warde Mbo e hodo, be kodii hodo, Alla fewjanibe O yirbiniibe kambe e yimbe mum en fof, Alla daali:

﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا لِمَكَرْنَا وَمَكْرًا وَمَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾﴾ [النمل: 49-51]

{ be ngoondandiree ma on kollir dūm e koreeji makko, refti ma min mbiiyan keedo makko min ceedaaki halkaare koreeji makko, pellet ko min goondube (49) be kodii hodo, Min kodii hodo, pellet ko Minen njirbini be kambe e yimbe mum en tawi be tinaani (50) } Ndaar hono wonnoo batte hodo mum en pellet Min njirbaniib e kambe e yimbe mum en denndaangal. (51)} [Annamli: 49-51.

Islaam na haɗa nguyka, Nulaaɗo yo jam e kisal won e mum maaki:Jinoowo jinatah saango nde o jinata nde hombo wini goondɗini, gujjoowo wujjatah nde o wujjata ndee tawa hombo goondɗini, jaroowo yaratah tumo nde o yarata nde tawa hombo goondɗini, tuubuya noon na holliraa caggal dūum.Sahiih Bukhaari 6810.Islaam na haɗa bewre, Alla daali:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90]

{ Pellet Alla na yamira nuundal e moyy'inde e okkude badiiɗo na haɗa pankare e ko sariya a'ii e bewre, hombo waajoo mon yaamo joo ciftaron.} [Annahli: 90]

Be maaki kadi:Alla wahyiima e Am yo on njankina, haa gooto e mon waasa yawtude keerol, gooto e mon waasa wasaade e dow godɗo o.Sahiih abi Daawuud 4895.Islaam na haɗa too'annee, Alla daali:

﴿...وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 57]

{ Alla yid'ah too'ooobe.Aali Imraan } [Aal-[mraan: 57.]

O daali:

﴿...إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]

{ Pellet O malnatah too'ooobe } [Al An Aam: 21]

O daali:

﴿...وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: 31]

{... Too'ooobe be O heblani be lepte muusde.} [Al Insaan: 31]

Be maaki kadi:Tato noddaandu mum en ruttetaake: Imaam nuundudo e koordo haa o humto e noddaandu tooaado hondu roonde e duule dame kammuuji uddite,Alla daala,e teddungal Am ma Mi wallu ma hay si ko caggal dummuna.Ko muslim yaltani mbo (2749) hombo tonga e luural setta, e Tirmijiyuu (2526) e luural setta, e Ahmad (8043) ko kanko woodani ngol konngol.Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodda faade e Islaam,o maaki:Reenta du*aaw tooaado sabu heedo alah hakkunde mammo e Alla.Sahiih Bukhaari 1496.Be maaki kadi:Kala tooodo ahdandiraado wolla o firti ahdi wolla o fawi mbo ko o hattanah wolla o nanngi e mum huunde ko aldah e mbelamma fittaandu ko Miin o hujjandirta ande darnga.Sunnaaji Abii Daawuud 3052.Islaam na hada kala jikku cobdo wolla gollondiral gondungal e tooange.

36. Islaam na hada gollandire jawdi gondude e riba wolla lorla maa puunti wollo tooange wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kubtadinndi e dow renndooji e bibbe leydi e teeldudo.

Islaam na hada gollandire jawdi gondude e riba wolla lorla maa puunti wollo tooange wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kubtadinndi e dow renndooji e bibbe leydi e teeldudo.Aayeeje e hadisaaji karminooji riba e toonyange e puunti e bonande ka leydi benniina e tayre adiinde, Alla daali:

﴿وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

﴿مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]

{ Lorloobe juulbe worbe e juulbe rewbe ko be paggitaaki been de ndoondiima fenaande mawnde e bakkaat banngudo.} [Al Ahjaab: 58].

Alla daali:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]

{ Kala golluḍo ko moyyi ko hoore mum o gollani, kala bonnuḍo ko e dow mum artata, Joome wonah tooḵoowo jiyaabe be } [Fussilat :46].

Arii e sunna Nulaaḍo mo jam e kisal woni e dow mum, o ḵaawii wota a lor wota a lore.Sunan Abii Daawuud.Be maaki kadi:« kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande cakkitiinde nden, yo o wowlu moyyere maa o deyya. Kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddiijo makko ngal. Kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin kodo makko on ».Sahiih Musim 47.

Be maaki kadi:Debba leptiraama ullundu ndu o soknoo haa ndu maayi, o naatnaa yiite, sabu oḵ amminaani ndu o yarnaani ndu, o sokndu o accaani ndu ndu ḵaamoyi kuule leydi.Sahiih Bukhaari 3482.

ḍum ko lordo ullundu, hono lordo yimbe noon wa*ta, ittaama e Ibnu umar o wii: Nulaaḍo wonii e dow minbar O noddi sawtu toowḍo, O maaki:Eehey mon jebbiliriibe ḍemḍe be iimaan yottaaki e berḍe mum en wotee loree juulbe wotee ngaybineebe wotee ndewindee awraaji mum en, sabu kala dewindiḍo awra musidḍo makko, Alla rewindoo awra makko, mbo Alla rewindii awra makko O hoyna mbo hay si o woni e nder hirke makko, o wii: Ibnu Umar ndaarii faade e suudu wolla faade Kaaba o wii: Ndaw ko tedduḍa ndaw ko hurum ma mawni, kono ko nedḍo bur ma hurma ka Alla.Ko Tirmijii yaltani mbo (2032) e Ibnu Habbaan(5763)Be maaki kadi:« kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande Sakkitiinde nden, woto o lorlu koddiijo makko, Kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande Sakkitiinde nden, yo o teddin koddiijo makko . Kala on gomḍiḍo Alla e ḵalaande Sakkitiinde nden, yo haal ko moyyi wollo o sukko ».Sahiih Bukhaari 6018.

Ittaama e Abuu Hurayrata ummaade e Annabi yo jam e kisa won e mum maaki: Mbela hodon nganndi pellisaado? be mbii pellisaado e amen woni mbo alah mbuudu alah kaake. O maaki: pellet woni pellisaado e lenyolam ko gaodoowoḵ ande

darnga koorko e juulde e askal, o ara hombo yenni o, hombo tukki o, hombo naami jawdi o, o jodđinee oya yoftoo e moyyi makko, si moyyi makko ngasii ko adii nde yobata ko fawii mbo ko e goopi, goopi mabbe nanng e mbeddee e dow makko, refti o werlee e yiite. Ko muslim yaltani mbo(2581) e Tirmijiyu (2418) e Ahmad (8029) ko kanko konngol woodani. Nulaado Alla maaki: Catal lekki woniino e laawol hongal lorla yimbe, gorko gooto itti ngal, o naatna aljanna. Bukaari yaltanii mbo(652) e maana mammba, e muslim(1914) ko wa*i noon e Ibnu Maaja (3682) e Ahmad (10432) konngol ngol woodaniibe, ittude ko lorata e laawol na naatna aljanna, hono njiruda loroowo yimbe bonno nguurdam mum en.?

37. Islaam arii reende hakkille, mbo harmini kala ko bonnata mbo hono yarde dolo, Islaam bamtii daraja hakkille, mbo wafi mbo yoworde pawe de Alla fawata aade, mbo rimdini mbo e tonngi ko yaadaani e hakkille e sanamuuji. Islaam alah sirruuji ma aawooje keeraniide hinnde gaa e wonnde, kala sariyaaji hembo na hawri e hakkille celludo te hodi njaadi e nuudal e nyeenyal.

Islaam arii reende kakkille mbo banti tolnde hembo, Alla daali:

﴿... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]

{ Pellet neddo ko naamnittedo nande e jiide e bernde deefo ko o naamnitteedo de. } [Al Israa:36].

Na waddii e neddo nde o reenata hakkille makko, ko dum saabi harmineede sanngara e dorog, karmugol sanngara jantaama e tonngoode (34) na heewi e aayeeje alqurana gasrooje e konngol toowdo:

﴿... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]

{ Yaama kakkilon } [Al Baqara 242]

Alla daali:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاللَّدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ [الأنعام: 32]

{ Aduna wonaani si wonah ko firde e belaade, ko galle laakara buri labaneede wonande hulbe Alla mate on kakkiltah. } [Al Anaam: 32].

Alla daali:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ [يوسف: 2]

{ Min tellanii mbo quraana arbiyanke ngam kakkilon.} [Yuusuf :2]

Alla holliti wonde peewal e ʿeeʿal naftorta dum tan ko jom hakkilleeji ko been mbiyete ulul albaabai, Alla daali:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ [البقرة: 269]

{ Alla na totta neenyal Mbo haajani, kala tottaado ʿeenyal tottaama bural manngal siftortah dum si wonah joman en hakkillaaji. } [Al Baqara: 269]

Ko dum wadi Islaam wadi hakkille won de faworde ko fawe tee e nedfo, Nulaado yo his maaki:Kudol bambaama e tata: daaniida haa fina, suko haa hoydifo e kaangaado haa hakkila.Bukaari o yowitiri mbo e tafngo fellitde ko adii hadiis (5269) O yaltani mbo hombo jokka e Abuu Daawuud (4402) ko kamko woodani lafju o, e Tirmijiyu (1423) e Nisaa*ii nde (ASUNANUL KUBRA) (7346) e Ahmad (956) e luural setta, e Ibnu Maaja.na tonnga.Rimfani mbo e tonngi jibuyaaaji e sanamuuji, Alla daali hombo habra fiyakuuji leyyi nanngitinoofi e jibuyaaaji e salaade goongo gardufo ka Alla:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ
 أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الزخرف: 23]

{ Ko hono noon Min nelaani e wura e jeertinoowo si wonah wiya neemiibe wuro ngo, pellet min tawii baabiraabe e dental ko batte mum en min eemntinta } [Ajjukhrufi: 23].

Alla daali hombo habra gaa e Annabi Ibraahiim yo kisal won e Makko:

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [الأنبياء: 52-53]

{Holko woni d̄ii nanndinaadi d̄i uufnani don. (52) be mbi min tawii baabiraabe amen na ndewadi (53)} [Al Anbiyaa: 52-53]

Islaam ari yamiri yimbe accude rewde sanamuuji, e accude jibuyaaji donaaɗi e baabiraabe e taaniraabe, mbo yamiri rewde laawol Nulaabe yo jam kisal won e dow mum en. Islaam alah aawooje keerinaade hinnde gaa e wonnde. Aliyyu Ibnu Abii Taalib biy baaba mum Nulaado e jom galle biy Nulaado Faatima: Mbela won ko Nulaado heertirani on e huunde? O wii Nulaado heerinaani amen huunde nde huftidinaani yimbe fof tawi wonah ko woni e wana jaasi am ki: O yaltini heen derawol na winnda heen Alla hud̄ii kirsirdo ko wonah Alla gujjudo manaar leydi Alla hud̄ii kud̄do jipnaado makko Alla hud̄ii mooldo pepintoodo e diine ko alah heen. Sahiih Muslim 1978. Denndaangal aawooje islaam e sariyaaji mum na yaadi e hakkille e nuundal e ee al..

38. Diineeji meere si sukkuɓe mum faamaani ko woni e mum e be'andiral ngal hakkillaaji cellubi calato, kono tan won e heyniibe diine pawɓe e hakkillaji sukkuɓe e mum en wonde diine woni ko dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko foyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati.

Diineeji meere si sukkuɓe mum faamaani ko woni e mum e be'andiral ngal hakkillaaji celluɗi calato, kono tan won e heyniibe diine pawɓe e hakkillaji sukkuɓe mum en wonde diine woni ko e dow hakkille, alah do rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko foyninta laawol hakkille, jom en diineeji meere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati, Alla daali:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾ [الشورى: 52]

{ hono nih Mbahyii faade e ma yurmeende e yamiroore Amen, a annadaana ko woni binndol wolla iimaan kono Min mbaɗaniimo ma annoore emin peewna heen mbo Min kaaja e jiyaabe Amen, pellet ana feewna e laawo pooɗingol } [Assuuraa: 52].

Wahyu Alliiyanke na soomi burhaanuuji e hujjaaji peewnooji hakkille kisɗo faade goongaaji ɗimbo faala annude e goonɗinde mbo, Alla daali:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿٧٥﴾﴾ [النساء:

[174

{ Eehey mon yimbe arii e mon daliil ummaade e Joomi mon, Min tellinii faade e mon annoore banngunde }
[.Annisaa: 174]

Alla faalaa ko yo neddo wuur e peewal e ganndal e goonga, seytanuuji e walladiibe paala ko yo neddo hedda e nibe keefaraagu e majjere e wemmbeede, Alla daali:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ...﴾ [البقرة: 257]

{ Alla woni keeda been goondinbe O yaltinabe e nibe faade e annoore, been yeddube noon ko keeda mum en Taaguut duum woni kala rewete ko wonah Alla, hobe yaltinabe e annoore faade nibbe. } [Al Baqara :257].

39. Islaam na mawnina ganndal cellungal na hirjina e witto ganndal ngal wondaani e belaade, hombo noddo faade ndaarde e miijaade e nder ko*e men e winndere wonnde sara men, e njencudi ganndal cellundi luutandirtah e islaam.

Islaam na teddini ganndal cellungal, Alla daali:

﴿...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]

{... Alla na banta darajaaji been goondinbe ummaade e mon, e been tottaabe ganndal, Alla na humpatii ko golloton ko. } [Al Mujaadala: 11]

Alla sinndindiri seede anndube e seede Makko e ceadagol malaykaaji Makko ko buri mawnude ko seedete, Alla daali:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابًا بِأَلْقِسْطٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]

{ Alla seediima wonde pellet Alla alah si wonah kamko, e malaykaaji e jom en ganndal, Hombo darii e nuundal,

deweteedo alah si wonah kamko, kamko woni pooldo mbo fooletaake ee'dudo } [Aali Imraan: 18.]

Ko nih fee'rata tolnde jom en ganndal nder islaam, Alla yamiraani annabi Makko Muhamed yo jam e kisal ngon e makko dabbuude beydaneede huunde si wonah ganndal, Alla dali:

﴿... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

{ Maaku joom am beydam ganndal. } [Taahaa: 114],

Be maaki kadi:Kala naatdo e laawol hombo dabba heen ganndal, Alla newna mbo laawol faade aljanna, pellet malaykaaji na lelna bibje majji weleede dabboowo ganndal, dabboowo ganndal kala ko woni e kammuuji e leydi na torono dum yaafuya haa e lidfi nder ndiyam, bural gannda e dow dewoowa ko hono no lewru wa*i e denndaangal koode, pellet anndube ngoni ronoobe annabaabe, pellet annabaabe ndonnatah diinaar wonah mbuudu, kono be ndonnata ko ganndal, mbo da'i ganndal danyii gedal keewngal.Ko Abuu Daawuud yaltani mbo(3641) e Tirmijjiyu(2682) e Ibnu Maaja (223) ko kanko jeyi ngol konngol, e Ahmad (21715).Islaam na hirjina e witto gannal teeldunga e belaade, hombo nodda faade e ndaarde e miijaade e nder pittaali men e nder ndee winndere sara men Alla daali:

﴿سَتْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53]

{ Ma Min kollube kaawisaaji Amen e jookli e nder ko*e mum en haa fee'ana be ko kanko woni goonga tigi, mbela yonaani Joom ma ko kamko woni ceediido e kala huunde. } [Fussilat :53]

Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ

يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbele be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta. } [Al Aaraaf: 185]

Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9]

{ Mbela be njahaani e nder leydi be ndaara hono batte been adii be, ko kambe burnoobe sattude doole e batte be mbattini e leydi be nguurni ndi ko buri kobe nguurni ndi ko, Nulaabe mum en ngaddani be banngudi, Alla wonaana toonyoowo be kono ko kambe too'ata pittaali ma'bb } [Arruum : 9]

E nje'ucudi ganndal cellundi ndi luutandiraani e islaam, ma en njnta heen yeru gooto mbo quraana fenciti fiyaaku mum ko adii duubi ujunere, ganndal kesal anndi. dum ko sakkitii ko, njenycudi ganndal ari na hawri e ko ari ko e quraana, duum woni tagde liiryel e nder reedu neene mum, Alla daali:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 12-14]

{ Min tagii aade e cengalawal ummaade e loopal (12) Refti Min mba'di mbo hed'ere e' iibirde hubandiinde. (13) Refti Min tagi tobbere nde hed'ere Min mbatti hed'ere nde husre, Min tagi husre nde yi*al Min min muurdi yi*al ngal teewu refti Min pu'ddi tagoore wod nde, Alla barkanii bur'oo labeede e tagoobe (14)} [Al Muuminuun : 12-14]

40. Alla jabatah barjatah golle si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini Nulaa do makko, Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini ko, hono aade yeddirta Alla refti o joorto nde okkata mbo mbelnaari? Alla jabantah iimman hay gooto si wonah o goondin annabaade fof, o goondini wonde muhamadu ko nulaado.

Alla jabatah O barjatah golle ande laakara si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini nulaabe Alla be fof, Alla daali:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء: 18-19]

{ Kala faalado yaawnaneede Min njaawnana mbo ko Min muuyi ko heen,wonande mbo min muuyi refti min mbaɗana mbo jahannama hombo sumee heen hombo woni nyinyaado diiwaado e yurmeende Alla. (18) Kala paalado laakara o gollanii mbo golle makko tawa hombo goondini been de yahdu mum en na yettaa (19)} [Al Israa: 18-19]

Alla daali:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ [الأنبياء: 94]

{ Kala golluɗo golle labaade hombo goonindi, oon yeddantaake yaadu makko, pellet ma Min mbinndan mbo de. } [Al Anbiya: 94].

Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini, Alla daali:

﴿..فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]

{Kala joortiido hawrude e Joomi makko yo o gollu golle labaade woto o renndin dewal mum Alla e hay gooto } [AL Kahfi:110]

O holli wonde golle labetaake si wonah de Alla sariyini, te kadi jom majje wona labbindo de fii Alla te hombo goondini

Alla e Annabaabe e Nulaabe yo jam e kisal won e mum en, kono mbo golle mum wonah duum, Alla daali:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: 23]

{ ' Min ngari e kobe ngolluno e golle, min mbaafide punndi(nduggu) caraandi } [Al Furqaan: 23].

Alla daali:

﴿رُجُوءُ يَوْمَيْدٍ خَشِيعَةً ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ [الغاشية: 2-4]

{ E geece koyde nyande heen (2) Gollooje tampude (3) Na sume e jaynge wulnge. (4)} [Al Gaasiya: 2-4]

Geece de na koyi nummorde e golle, kono de ngollatno ko aldah e peewal ummorngal ka Alla, Alla wadi battane majje ko jaynge, sabu de ngollir ko Alla sariyinaani, kono de ndewi ko dewgol meere, be cukki e ko*e majjere deen cosatnoobe be diineeji meere, golle labaafe jabaade ka Alla woni kawrufe ko Nulaado addi ko hono neddo yeddirta Alla o joortoo nde Alla yobata mbo ko labaa?Alla jabantah iimaan hay gooto si wonah o goondin Annabaabe fof o goondina nulal Muhamed, en kaaliina yogo e dallilaaji e duum e tonngoode (20) Alla daali:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]

{ Nulaado goondinii ko tellinaa ko e mum ummaade Joom makko, fof en ngoondinii Alla e malaykaaji Mum e defte mum e Nulaabe Mum, Min ceerndatah hay gooto e Nulaabe Mum, be wii min nanii min doftiima hafran amen, Joomi amen ko e Maa woni weernde.} [Albaqara: 285]

Alla daali:

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]

{ Onon goondinbe ngoondinee Alla e Nulaabe Makko e deftere nde O tellini e Nulaado Makko e deftere telliinde ko adii, kala jedduo Alla e malaykaaji Mum e defte Mum e Nulaabe Mum e alawma cakkitiido o majjii majjer woddunde } [Annis: 136].

Alla daali:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَضْنَا
قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]

{Tuma nde Alla nanngi aadi e Annabaabe nd ngaddan Mi mon deftere e eeal, refti ari e mon Nulaado goondindo ko ngondudon ko, ma on ngoondin dum mballon mbo, o wii mbela on qirriima aadi Am o e duum, be mbii min qirriima, O wii ceedee Miin mbedo seedadoo e mon.} { Aali Imraan: 81].

41. Woni faandaare nule Alliyankooje konde: Islaam diine goongo o bamtata aade haa o wona maccudo Alla tigi, mbo rimdina mbo e maccungaagal rigi e jibuyaaji, islaam senintah aade en bamtabe dow darajaaji mum en, mbo wadataabe Allaaji.

Woni faandaare denndaangal nule Alliyankooje ko: nde diine goongo bamtata aade, o wona maccudo Alla tigi, islaam na rimdina aade e maccungaagu jawdi e jibuyaaji, Nulaado mo jam e kisal woni e makko maaki:Malkisaama maccudo diinaar e mbuudu e qadiifa e khamiisa, si o rokkaama o welto si rokkaaka o weltataako.Sahiih Bukhaari 6435.

Neddo peewdo wonatah lorkinaniido si wonah Alla, jawdi e koongu e palaas e leool fof wadataa mbo maccudo, e ngol tinndol na huncana janngoowo o, no yimbe mbaano ada ko nulal e hono be mbattini. Nde juulde adinoode pernoo faade Ecoppi, laamdo leydi ndi naamniide, oon woni Najaasi, o wii: Hombo woni o diine ceerndudo on e yimbe mon, te on naataani e diine am wolla diine mofte goo? Jaafar Ibnu Abii Taalib wii: Eehey ma laamdo min ngonno ko jaahiliyankoo-be, rewoobe sanamuuji, aamoobe jiiba, jinoobe tayooobe endam, bonbe e hoddiibe, cembindoo aama lohdo, min ngoni e duum haa Alla neli faade e amen nulaado ummiido e amen mbo min nganndi asko makko e goondugol makko e hoolaare makko, e burnaade mbo, o noddi amen faade e tawhiid Alla e rewde Mbo, e accude ko min ndewatno minen e baabiraae amen ko wonah Alla, ko wa*i na kaaxe e sanamuuji, O yamiri amen goondude e yeewtere e tottirde hoolaare e jokkude endam e labinde koddigal e accude ko harmi e diiy'am, O hadi amen pankare e haalde fenaande e naamde jawdi alyatiime e tukkude deeniido, O yamiri min nde min ndewata Alla kanko tan, min mbaasa Mbo renndinde e hay huunde, o yamiri amen juulde e askal e koorko. o wii: O limtani mbo gede islaam min goondani mbo min ndewi mbo ko o addi ko, min ndewi Alla, min mbaasi renndinde Mbo e huunde, min karmini ko o harmini e dow amen min ndakni ko o daknani amen; Ahmad yaltani mbo(1740) e luural setta, e Abuu Na*iim nder(HILYATUL AWLIYA) (1/115) na tonnga. Islaam hono no paamirtaa senintah aade en mbo toownabe dow daraja mum en mbo wadataabe Allaaji e reweteedi. Alla daali:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]

{“Maaku:”Ko onon yo yimbe Defte,aree e konngol fotayngol hakkunde amen e mo'on:wonnde en rewataa si wanaa Alla,en kafidataa Mo e huune wata yoga e me'en jogitor yogo Joomi-raabe ko woori Alla".Si be huccitii,wi'ee:"Seeditee wonnde menen ko men jebbiliibe".}
[Aali Imraan: 64.]

Alla daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80]

{O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteefe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?} {Aali Imraan: 80}.

Be maaki kadi:Wotee nguttee kam honono Nasaaraa en nguttiri Ibnu Maryama, Miin de ko Mi maccudo makko, mbi*ee maccudo Makko e Nulaado Makko.Sahiih Bukhaari 3445.

42. Alla sariyinii tuubde ko duum woni: ruttaade nedfo e Joom mum e accude bakkatuuji, islaam na yirbina ko adinoo mbo e bakkatuuji, tuubaabuya na itta ko adinoo dum e bakkatuuji, haajaraani qirraade bakkatuuji yeesa yimbe.

Alla sariyani tuubgol e islaam ko duum woni: ruttaade e Joom mum e accude goopi, Alla daali:

﴿...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]

{Ndutte e Alla onon fof juulbe mbela joo maledon}
[Annuur: 31].

Alla daali:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104]

{ Mbele be nganndah Alla na jaba tuubaabuya e jiyaaɓe Makko, hombo nannga sadakaaji pellet Alla ko jaboowo tuubaabuya ko O jurmatooɗo.} [Attawba: 104].

Alla daali:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]

{Ko kamko woni jaboowo tuubaabuya e jiyaaɓe Makko hombo yaafoo bondi hombo anndi ko mbadaton ko} [Assuura: 25].

Be maaki kadi:Alla buri sattude weltaare e tuubgol jiyaaɗo Makko goondindo e gorko gondo e leydi kalkoori hombo wondi e daaba makko gondudo e ʾaamdu e njaram makko,o daani o fini o tawi mbo yahii,o ɗabbi mbo haa ɗomko hefti mbo,refiti o wii: mi ruttoto e nokku ngonnoo mi, mi ɗaano haa mi maaya,o fawi hoore mum e seemde makko ngam o maaya,o fini o tawi daaba mum ɗoon hombo wondi e njooba e ʾaamdu e njaram makko,ko Alla buri sattude weltaare e maccudo goondindo e oon gorko jiidudo daaba mum o.Sahiih Muslim 2744.Islaam na yirbina bakkatuuji gadiidi mbo, tuubuubuya na momta bakkatuuji gadiidi, Alla daali:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يُعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]

{Maakan ben yeddube: si be haɗtike; be haforante ko yawti. Si be ruttiima, haray gomdii laawol adinoobe ben yawtii.} [Anfaal: 38]

Alla noddi nasaaraa yobe tuub, O daali:

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 74]

{Mbele be nduttataako e Alla, be ɗabba e Makko yaafeede, Alla ko jaafatooɗo jurmotooɗo} [Al Maa*ida : 74].

Islaam reerɗini denndaangal woopbe e bakkodinbe nde be tuubata, Alla daali:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]

{Maaku eehey mon jiyaaɓe Am fantinɓe e dow ko*e mum en, wotee piɓtee yurmeende Alla, pellet Alla na yaafo denndaangal bakkatuuji, ko Kanko woni jaafatooɗo jurmootooɗo..} [Ajjumur: 53].

Nde Amru Ibnul Aas faalaa naatde islaam, o huli nde o waasat yaafeede bakkatuuji mum ɗi o golli ko adii islaam, Amru wii hombo haalana men ndee darnde:Nde Alla werlii e bernde am islaam o wii: Ngarmi e annabi yo o his ngam O soodandira e am, O werti junngo makko faade e am mbii mi: Mi soondandirtah e ma haa^u aafaɗaa mi ko mbaɗmi ko e bakkat, o wii: Nulaad maaki : Aan Umar mate a anndah fergo na momta bakkatuuji gadiiɗi fergo ngo, Aan Umar mate a anndah wonde fergo na momta bakkatuuji gadiiɗi ngo.Ko muslim yatani bmo(121) hombo juutna hono noon, e Ahmadu (17827).

43. E nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heedo, a hatajinaani nde gooto wonata hakkunde ma e Joome, islaam na haɗa nde mbaɗaten aade deweteɗo wollo renndube e Alla e Alliiyankeewal Makkoe he ma ko O heeranii ko e reweede.

E islaam haajaraaka nde aade qirratoo goopi makko e yeese aade, e nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heeda, hatajinaaka e goɗɗo ngam wona hakkunde ma e joom ma, ko hono no yawtiri e tonngoode (36) Alla noddii denndaangal yimɓe ndebe nduttotoo e Makko, O haɗi yimɓe nde nde nanngirta malaykaaji wolla annabaabe wonde hakkunde Alla e e jiyaaɓe Makko, O daali:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80]

{O yamirtaa on jogitorgol Malaa'ikaabe ben e Annabaabe ben reweteefe. E O yamiray on keeferaaku, baawo nde laatinodon jebbiliibe?} {Aali Imraan: 80}.

Islaam na hada nde aade nanngirtee Alla wolla renndude e Alla e jeyal Makko e Alliyakeewal Mum, Alla daali:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31)

{Be jogitike cernoobe mabbe e ruudiibe mabbe reweteefe ko woori Alla, e Mema-sella gedal Maryama. Be yamiraaka si wonaa rewugol reweteedo gooto. Reweteedo alaa si wonaa Kanko. Senayee woodanii Mo e kon ko be sirkaa ko.} [Attawba: 31]

Alla yeddii heeferbe kobe jogitto ko jokkorde hakkunde mabbe e Makko, Alla daali:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (الزمر: 3)

{Ko noon de woodanii Alla diine laabtudo, been jaggirbe tanah Makko waliyaabe min ndewataabe si wonah yobe badin amen malal pellet Alla ko aawoowo hakkunde mum ennder kobe luutraatnoo ko, pellet Alla feewnatah kala gondo penoowo keefeero..} [Ajjumur: 3]

Alla holliri wonde wasaniyankoobe -jaahilii en- na njogotono jokkorde hakkunde mum en Alla be mbi*a: been badnabe Alla.Si Alla hadii aade en nde nanngirta Annabaabe e malaykaaji jokkorbe hakkunde Makko e jiyaabe Makko, tanah mum en buri waasde haandude wonde jokkorde hakkunde Alla jiyaabe Makko, Annabaabe e Nulaabe na yaawnoo ngam badaade Alla, Alla daali na habra alhaali Annabaabe e Nulaabe:

﴿...إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خٰشِعِينَ﴾ (الأنبياء: 90)

{Pellet hobe njaawnatonoo e moy'yi hobe noddatonoo Amen reerdude e kulol be ngonniino hulbe Alla} [Al anbiyaa:90].

Alla daali:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا...﴾ [الإسراء: 57]

{Ko been ngoni noddooobe dabbooobe faade e Joomi mum en jokkorgal hombo e mum en buri badaade hombe joortoo yurmeende makko, hombo hula lepte makko, pellet lepte makko de ko deentaade..} [Al Israa: 57]

been be noddoton ko wonah Alla - e annabaabe e moy'yuube - been hobe balloroo faade Alla hobe njoortoo yurmeende makko, hobe kula lepte makko, ko hono be noddirtee ko wonah Alla.

44. E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leyde wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowu mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be aawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leydi wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowu mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be naawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en

poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.

45. Sabu duum noddumaami aan nebbe nde ndarantafa Alla ndarnde goondunde boliinde e eemtinde e aada, annu aan caggal maayde ma a rutta faade e Joom ma,ndaar hoore ma e jookli hedde ma, jebbila kisa aduna ma e laakara ma,si a faalaama naatde islaam alah ko fawii e ma si wonah seedaade alah deweteedo e goongo si wonah Alla e Muhamed ko Nulaado, e nde kisataa kala kala ko rewetee si wonah Alla, goondinen ma Alla yaltin wonbe to genaale, goondinaa hasboore e njobdi ko goongo,si a seediima dii seedeji a wontii juuldo,oon tuma noon fawiiwo ma nde ndewataa Allano sariya ardiri nih hono juulde,askal,koorko e hajju si ana hattani.

Ko dum wadi mbeda noddu ma aan aade nde ndarotafa sabu Alla accaa eemtinde e aada, hono no Alla noddir ma, O daali:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شِئْءٍ وَفِرَادَىٰ تُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ

جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: 46]

{Maaku pellet mi waajoto mon e gootel nde ndaranatodon Alla difo e gooto gooto refti miiccadon,kaadi ngalah e gondiijo mon hee,ko O jeertinoowo mon tan na e yeesa mum lepte cattude. } [Sabaa: 46].

Annu aan ko a ruttto e Joom ma, Alla daali:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ

الْجُزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾﴾ [النجم: 39-42]

{ Aade alah si wonah ko yahani (39) Yaama yahdu mum ndu yi*ee (40) rē Refti o yobee mbo njobdi burndi timmude (41) Ko faade Joom ma woni haattirde (42) [Annajmi :39-42]

Nde ndaarata e hoore ma e jookli sera ma, Alla daali:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

{ Mbela be ndaaraani nguu laamu teddungu nder kammuuji e leydi e ko Alla tagi e kala huunde, na hasoo nde lajal mum en badato honde yeewtere caggal dum be ngoondinta.] [Al Aaraaf: 185].

Jebbila maleda aduna ma e laakara ma, si a faalaama naatde e Islaam, alah ko fawii e maa si wonah seedaade deweteedo alah si wonah Alla gooto, Muhamed yo jam e kisal won e mum ko Nulaado Alla tigi. Tumo nde Nulaado nulnoo Mu*aaj faade Yaman ngam o nodda faade e Islaam, o maaki: Pellet ma a ar e yimbe joman en defte, noddube faade e seedaade alah deweteedo e ngoonga si wonah Alla, Miin komi Nulaado Alla tigi, sibe doftiimo ma e duum anndibe farlaama e mum en juuldeele joy kala alawma e kala jemma, sibe doftiima ma e duum anndibe Alla fawii e mum en askal ummaade e jawle mum en ngal nannge e aldube mabbe tottee waasbe, sibe doftiimo ma e duum reento jawle mum en burde teddude, reento noddugol toonyaado sabu heedo alah hakkunde nduun noddaandu e Alla. Sahiih Muslim 19.

Nde kisataa e kala ko rewetee ko wonah Alla, hisde e kala ko rewetee ko wonah Alla, woni laawol Annabi Ibraahiima peewngol, Alla daali:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ...﴾ [الممتحنة: 4]

{ Wonanii on e Ibraahiima ̣eemtanirgal labangal e bee be o wondi tumo ndebe wii yimbe mum en pellet min kisii e mon e koon ko ndewaton ko wonah Alla,min njeddii mon,gạandiral banngii hakkunde amen e mon pooma haa ngoondfinon Alla kanko tan } [Al Mumtahina: 4].

Goondinde Alla umminat wonbe nder baamuule, Alla daali:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾ [الحج: 6-7]

{ Sabu ko Alla woni goongo,pellet ko Kanko woni guurtinoowo maaybe, ko Kanko woni kattandfo kala huunde (6) Pellet darngo koko arata sikke alah heen, pellet Alla umminat wonbe e genaale. (7) } [Al Hajji: 6-7]

Hasboore e njobdi ko goono, Alla daali:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴿٢٢﴾ [الجاثية: 22]

{Alla tagiri kammuuji e leydi goongo e haa yobee kala fittaandu ko ndu faggitii ko, kambe be toọetaake.} [Al Jaasiya: 22]

Si a seediima ndu seedanfaagu ngonaa juuldo, fawama e ma rewrude Alla ko O sar*ini ko e juulde, askal koorko e hajju wonande baawdo .

Tummbitere e taariik 19-11-1441.
ko dr Muhamed Abdu Sahiim winndi nde.
Porofisoor fibnde to bange wittooji Islaam (ko adii)
Dudal Jaabi haattirde Uniwersite Malik Sa*uud.
Riyad laamaandi Arabi Sa*uudi.

Contents

Islaam..... 1

1. Islaam ko bataake Alla faade e denndaanga yimbe e jinneeji fof,ko kammba woni nelal Aliiyankeewal genawal,timminngal nele Alliyankooje:..... 4
- 2- Islaam wonah diine leñol maa yimbe heeriibe, kono kombo diine Alla wonande yimbe fof: 5
3. Islaam woni nelal Alliyankeewal garngal ngam timmitinde nule Annabaabe e Nelaabe adiibe be yo jam e kisal won e mum en faade e yimbe mabbe..... 6
4. Annabaabbe be kisal woni e mum en, diine mu*en ko gooto,sariyaaji mabbe ko ceertudi..... 7
5. Islaam noddata ko-ko hono no Annabaabe:Nuuhu,Ibraahiima, Muusa,Suleyman,Daawuuda e Iisaa yo kisal won e mabbe-faade gumre wonde Alla ko takdo guurnoowo baroowo,jeydo jeyal ko O jiiloowo fiyakuuji ko Kamko woni newiido jurmotoodo O..... 8
6. Alla Mbo senaare woodani toowdo On Kay woni tagdo kaandudo reweede O waasa rewdeede e hay gooto: 12
7. Ko Alla woni takdo kala ko woni e nder winndere he,ko nji*aten ko eko en nji*ataako,kala ko wonah Alla ko tagoore ummaade e tagooje Mum,Alla tagii kammuuji e leydi e nder balde jeegom: 18
8. Alla Mbo senaare woodani toowdo O, O alah denndadiijo e laamu Mum wolla tagoore Mum maa e yiilde Mbo fiyakuuji wolla e dewe Mum he. 19
9. Alla ceniido O, O jibinaani O jibinaaka O alah paso wolla nandadiijo..... 22
10. Alla ceniido toowdo O, O tellataako e nder huunde, O banndintaako e nder huunde e tagoore mum he:..... 22
11. Alla ceniido toowdo ko endiido jurmiido jiyaabe Mum, ko dum wadi O nuli Nulaabe O jippini defte. 25

12. Ko Alla woni Joomiraado jurmotoodo, ko kamko googto haasbata tagoojede Ñalngu darngo saango nde O umminiibe e genaale mum en, gooto fof yobe ko golli ko mojji, te hombo goondini , woodanii mbo neema duumiido, oon golludo ko boni woodaniimbo lepte njane ka laakara.26
13. Alla ceniido O takrii Aadama e leydi O wadi besngu mum ina beydoo caggal makko, kambe fof poti to bange asko, alah kobe burindiri si wonah kulol Alla. 29
14. Kala jibinaado jibintee ko e neesu..... 30
15. Hay gooto e yimbe he jibidinteedo e goopol, ma o rona goopol goddo: 31
16. Woni faandaare tagde aade en ko haa be ndewa; Alla tan: 33
17. Islaam teddinii aade -rewbe e worbe- O defanii mo denndaangal hakkeji makko O wadi mbo naamnitteedo denndaangal ko o subii e golle e ko o firilitii, O roondi mbo naamniteede kala golle lerooje hoore makko maa wobbe..... 34
18. Islaam na fotndi debba e goroka to bange golle e defaade ko o golli ko e njobdi e baraaje:..... 38
19. Islaam teddinii debba mbo jaggri debba ko funeere goroka, mbo waddini goroka nafqude tawi hombo hattani, ko kanko kadi nafqata biyum debba e yumma makko, biddo goroka nafqata yumma makko si o hellifaama o hattani, jom galle kadi fawaa nafqude jom suudu mum..... 39
20. Maayde wonaa kuubal duumingal, maayde ko eggude galle golle faade e galle njobdi, maayde na heba banndu e fittandu, maayde fitaandu woni seerde ki e banndu, refti ki ruttoo e hendu caggal ummital, fittaandu

ruttataaka e banndu wofndu ki tummbittaaake kadi e banndu wofndu..... 41

21. Islaam noddata ko e gumre tawa mbo fawii ko e tuugle gumre mawde de,ko deen ngoni:goondinde Alla e Malaykaaji Makko e defte Alliyankooje dee,hono Tawreet,Injiil e Jabuur ko adi nde de mbaylatee nde,e AlQuraana e goondinde denndaangal Annabaabe e Nulaabe e goondinde ñalngu cakkatiingu,heden anndi si nguurndam aduna wonna cakkatiidam maa nguurndam e goodal ngonatno fijirde banngunde,ko noon kadi no waddii jabde hoddira e ñaawoore: 42

22. Annabaabe ko reenaabe kobe njottinanta ko Alla , kobe reenaabe e kala ko yaadaani e hakkille maa ko jikku kisdó salato, ka Annabaabe fawaa yottin de jamirooje Alla faade e jiyaabe Makko, Annabaabe ngalah ko Alla heerori ko e jeyde e reweede, alah kambe kobe bannduyankooɓe, hono denndaangal aade en, Alla na wahyoo e mabbe nule Makko de: 55

23. Islaaml noddata ko yoo Alla tan rewire asliiji dewe Alla njane den, deen ngoni: Juulde nde ngannduda woni daraade e rukuu e sujuud e yettude e manntude Alla e toraade,juulda na juula ñande fof laabi joy, seerugol hakkunde gala e baasdoola e laamdo e laamaado fof ittoo, kambe fof be ndaroo e sappe goota e nde juulde he, e Askal dum ko huunde setta e jawdi won dude e sarteeki e embereeki di Alla dotti, dum na waddi e jawdi aldube nafqiree waasbe e tanaa mum en, laawol gootol kala hitaande, e Koorka ko dum woni nanngude hoore mum e ko firtata koorka nder ñalawma lewru koorka, dum na neha fittaandu to bannge muuyaande e munyal, e Hajju ko dum woni yaade to ssuudu hormaandu ndu, nduun woni Makka laawol gootol nder nguurndam wonande baawdo, e oo hajju fof en na pota

- to bannge huccitde e takdo O, aade en fof pota ceergol hakkunde mum en ittoo fes..... 61
24. Ina jeyaa ko buri waawde seerndude hakkunde dewe Alla: Node ngollirtee nih e waktuuji majje wolla sarteeji majje, Alla sariyanii de Nulaado mum yo o his yottanide, aade en naattaani e hede ustude maa beydude haa hannde, dee dewe Alla njane fof woni ko denndaangal Annabaabe e Nulaabe noddata..... 65
25. Nulaado islaam o Muhamadu kamko woni biy Abdullaay jeyaado e Ismaa*iil biy Ibraahiima yo kisal won e mum en,O jibinaa ko e Makka hitaande 571 j i O nelaa toon O feri faade Madiina O renndaano e yimbe makko ko faati e rewde sanamuuji,kono hombo renndatnoo e mum en ko faati e golle teddufe,yimbe makko no inniratnoo mbo koolaado sabu jikku makko laabdo,nde dañi duubi 40 Alla sembiniri mbo kaawisaaji mawdi,ko Alquraana buri heen mawnu ko kambo woni keddiido haa jooni,nde o timmini diine Nulaado yottini mbo no haaniri nih,o sankii hombo yaara e duubi 63 o wirnaa to Madiina,Nulaado Muhamadu woni timmorde annabaabe e Nulaabe, Alla neliri mbo peewal e yaltinde aade en e nibe sanamuuji e keefaraagal e majjere,faade annoore tawhiid e iimaan,Alla seedi wonde O nelii mbo noddoowo faade e Alla e yamiroore Makko..... 67
26. Sariya Islaam mbo Muhamadu addi o, kambo woni timmorde nele Alliyankooje e sariyaaji Joomiraawo, ko kambo woni sariya timmal ko hembo woni moy'ere diine aade en e aduna mum en, hombo reena e daraja gadana: diineeji, y'iiye, jawle, hakkillaaji e jeol yimbe, ko kammba firti sariyaaji gadiidi hono no diin pirtirnoo yogo e majji. 71

27. Alla ceniido O jabatah ko wonah diine islaam mbo Nulaado Muhamed addi o yo jam e kisal won e mum, kala nantiido e diine mbo wonah islaam o jabantaake.73
28. Alquraana teddufo o woni deftere nde Alla wahyii Nulaado muhamed yo o his, konde haala Joomiraawo ronkinnde aade en e jinnaaji ndebe addata hono makka wolla simoore waande e mum, haa jooni na ronkaa,al quraana noon na jaaboo naamne kimmude keewde weemnunooje miliyonji yimbe,al quraana o na reena haa hannde e demngal arab ngal mbo telli e mum ustaaka heen hay harfeere, honde muula defte kaande janngede, wollo janngude ko eggaa e maanaaji mayre faade e demde goo, ko noon kadi sunna nelaado o e siira makko na reena na egga fotde no habroobe hoolaabe kabriri nih, hombo muulaa e demngal arab ngal nulaado haalatnoon mbo eggaa faade e demde keewde, alquraana e sunna, ngoni yaltirde wootere wonan de ʾawooje sariya islaam, sariya islaal nanngetaake e pirlitale aade en askintinatoobe e hembo, kono sariya nanngirtee ko e wahyu Alliiyanke: AlQuraana e Sunna Nulaado..... 74
29. Islaam na yamira diggan de e jipnaabe hay sibe ngonah juulbe e wasiyanaade sukaabe..... 78
30. Islaam na yamira nuundal to bannge bolle e kuude hasindo ko won dude aʾbe..... 82
31. Islaam na yamira labbinde faade tagu nguu fof, na nodda faade jikkuuji laabdi, e golle laabde. 84
32. Islaam na yamira jikkuuji jettaadi hono goondude e tottirde hoolaare e nefde ko boni e hersude e jaambaraagal e tottirde e teddungal,e wallude katajindo,e faabaade tampufo,eʾ amminde keydufo,e

- mojjiin de koddigal e jokkude endam e yurmaade kulle.
 85
33. Islaam dagnii laabdi e^o aamdu e njaram, o yamiri labbinde bernde, banndu e galle, ko dum saabii O dagni dewgal hono O yamirirnoo Annabaabe yo be kis, hobe njmiratnoo ko labaa..... 89
34. Islaam harmanii lasliiji karminaadi hono sirku,keefaraagu,rewde sanamuuji,haalde e Alla ko a anndah,warde sukaabe,warde fittaandu harmundu warde,bonnude e nder leydi,mbilewu,pankare bangude e ko wirnii, jinaa,e golle luuti en? O harmini riba,e nyaamde jiiba e ko hirsanaa sanamuuji,O harmini^o aamde mbabba tugal e tuundiiji e sobeeji,O harmini^o aamde jawdi alyatiime, e ustude peese e betu,O harmi tayde endam. Annabaabe e Nulaabe fof na hawri e harmude dii kadaadi..... 91
- 35..... 96
36. Islaam na hada gollandire jawdi gondude e riba wolla lorla maa puunti wollo too^o annge wolla ko addata boneeji e loruuji e mbaadi kuftadinndi e dow renndooji e bibbe leydi e teeldufo..... 101
37. Islaam arii reende hakkille, mbo harmini kala ko bonnata mbo hono yarde dolo, Islaam bamtii daraja hakkille, mbo wadi mbo yoworde pawe de Alla fawata aade, mbo rimdini mbo e tonngi ko yaadaani e hakkille e sanamuuji. Islaam alah sirruuji ma^o aawooje keeraniide hinnde gaa e wonnde, kala sariyaaji hembo na hawri e hakkille cellufo te hodi njaadi e nuufal e nyeenyal. 103
38. Diineeji meere si sukkube mum faamaani ko woni e mum e be^o andiral ngal hakkillaaji cellubi calato, kono tan won e heyniibe diine pawe e hakkillaji sukkubb e mum en wonde diine woni ko dow hakkille, alah do

- rewete haa hakkille faama diine. kona tan islaam teskii diine koko foyninta laawol hakkille, jom en diineeji meeere na faala nde aade accata hakkille makko o rewa e mum en, islaam noon faala ko findinde hakkille, ngam goongaaji fiyakuuji ngannde e jaati..... 106
39. Islaam na mawnina ganndal cellungal na hirjina e witto ganndal ngal wondaani e belaade, hombo noddo faade ndaarde e miijaade e nder ko*e men e winndere wonnde sara men, e njencudi ganndal cellundi luutandirtah e islaam. 107
40. Alla jabatah barjatah golle si wonah e goondindo Alla o doftii Mbo o goondini Nulaa do makko, Alla jabatah e dewe Alla si wonah ko O sariyini ko, hono aade yeddirta Alla refti o joorto nde okkata mbo mbelnaari? Alla jabantah iimman hay gooto si wonah o goondin annabaade fof, o goondini wonde muhamadu ko nulaado..... 110
41. Woni faandaare nule Alliyankooje konde: Islaam diine goongo o bamtata aade haa o wona maccudo Alla tigi, mbo rimfina mbo e maccungaagal rigi e jibuyaaji, islaam senintah aade en bamtabe dow darajaaji mum en, mbo wafataabe Allaaji..... 112
42. Alla sariyinii tuubde ko duum woni: ruttaade neddo e Joom mum e accude bakkatuuji, islaam na yirbina ko adinoo mbo e bakkatuuji, tuubaabuya na itta ko adinoo dum e bakkatuuji, haajaraani qirraade bakkatuuji yeesa yimbe..... 114
43. E nder islaam jotondiral hakkunde aade e Joom makko alah heedo, a hatajinaani nde gooto wonata hakkunde ma e Joome, islaam na hada nde mbadaten aade deweteedo wollo renndube e Alla e Alliyankeewal Makkoe he ma ko O heeranii ko e reweede..... 116

44. E sakket ngal nulal en ciftarat wonde aade en e seertude jamanuuji mum en e yimbe mum en e leyde wollo boom e rennda aade en fof na seerti miijooji e paandale ka neesu e ka golle, na haajora e peewnoowo tinndinoowo e njuubbudi ndenndinatndi e laamu deenoowu mbo, Nulabe teddube be noon ndoondinoo ngaal donngal ummorde e wahyu ka joomiraawo, be peewna aade en e laawo peewal e fooccaare, be ndenndinabe e sariya Alla, be^o aawira hakkunde mum en e goonga fiyakuuji mum en poocco fotde nobe nootari Nulaabe e badaade yonto mum en e nele Alliyankooje, O timminiri nele e nelal Muhamed yo jam e kisal won e mum, O winndi e maggal heddaade, O wadi ngal peewal aade en e annoore yottinatnde e Alla.
 118

45. Sabu duum noddumaami aan nebbe nde ndarantafa Alla ndarnde goondunde boliinde^o eemtinde e aada, annu aan caggal maayde ma a rutta faade e Joom ma,ndaar hoore ma e jookli hedde ma, jebbila kisa aduna ma e laakara ma,si a faalaama naatde islaam alah ko fawii e ma si wonah seedaade alah deweteedo e goongo si wonah Alla e Muhamed ko Nulaado, e nde kisataa kala kala ko rewetee si wonah Alla, goondinen ma Alla yaltin wonbe to genaale, goondinaa hasboore e njobdi ko goongo,si a seediima dii seedeeji a wontii juuldo,oon tuma noon fawiiwo ma nde ndewataa Allano sariya ardiri nih hono juulde,askal,koorko e hajju si ana hattani..... 119

Get to Know about Islam

in More Than **100** Languages



موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com



Encyclopedia of the
Translations of the Prophetic
Hadiths and their
Commentaries



IslamHouse.com



A Comprehensive Reference
for Introducing Islam in the
World's Languages



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



Encyclopedia of the
Translations of the Meanings
and Interpretations of the
Noble Qur'an



مَا لَا يَسْمَعُ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ جِهَلَهُ
kids.islamenc.com



The Platform of What Muslim
Children Must Know



موسوعة المحتوى الإسلامي
IslamEnc.com



A Selection of the Translated
Islamic Content



بيان الإسلام
byenah.com



A Simplified Gateway for
Introducing Islam and
Learning its Rulings





978-603-8412-74-9



Ff180